


DALE  
CARNEGIE

لہاس نرمی اور دلچسپی سے نجات حاصل  
کرنے کا تھا۔ میں پورتھمکی کا آغاز بھی

# خود اعتمادی برداشتی



ڈیل کارنگی

آپ بخوبی کے لئے ملکے

# خود اعتمادی بڑھائیے

مصنف: ڈیل کارنیگی

مترجم: ایس ناز

مشع پک لیکنسی نوید اسکوائرز گرلز ہجی  
نیوار دوبازار

## فہرست

صفحہ نمبر	عنوان
5	کامیاب اور بھرپور زندگی لگزارنے کے لیے خود اعتمادی پیدا کیجئے
10	داڑھی سوچھوں کا فناٹی پہلو کیا آپ زد حس ہیں
11	اپنی غذا اگر کوہترناکیے
13	تازہ ہوا کھائیے اور روزش کیجئے
13	آپ کو آرام کی ضرورت ہے
14	حالات کا مقابلہ کرنا کیجئے
14	قدرت دعوت ظفارہ دیتی ہے
16	نیز بھی ضروری ہے
16	خود کو مصروف رکھیے
17	مستقبل کی مخصوص بندی کر لیجئے
17	احساس ظرافت پیدا کیجئے
18	اپنے آپ پر ترس نہ کھائیے
20	یہاں فرشتے بیس لئتے
21	دوسرے آپ سے زیادہ بدصیب ہیں
21	خدا کی تعیین قسمی یار رکھئے
23	حالات کا مقابلہ کیجئے
23	مصروف رہنا کیجئے
25	شوق و ارفتہ نے توڑا زندگانی کا جمود

جلدہ حقوق بحق ہبھر راجھنوجہ ہیں

مصنف :	ڈیل کارٹیگی
مترجم :	الس ناز
ناشر :	شیخ بک ابجھنی
زیراہتمام :	خالد علی
پرنٹر :	برکت انڈسٹریز
تعداد :	1000
قیمت :	40/- روپے

### اشاک

- ☆ اشرف بک ابجھنی، اقبال روڈ راولپنڈی
- ☆ کتاب گھر اقبال روڈ راولپنڈی
- ☆ یونس بک ڈپور، راجہت مارکیٹ اردو بازار لاہور
- ☆ فیم بک ڈپور راجہت مارکیٹ اردو بازار لاہور
- ☆ کتب خانہ مقبول عام، جنگل بازار لیصل آباد
- ☆ رشید نور ابجھنی، اخبار مارکیٹ فیزیروڈ کراچی

## کامیاب اور بھرپور زندگی گزارنے کیلئے

### خود اعتمادی پیدا کیجئے

ہر فرد کے اندر ایسی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں جنہیں بروئے کار لا کروہ اپنی شخصیت کو متوازن اور خود اعتمادی کی دولت سے ملا مال کر سکتا ہے۔ پچھے دوں مجھے ایک ایسا خط پڑھنے کا موقع ملا جس کے ایک ایک لفظ سے درومندی اور تاسف کا اظہار ہوتا تھا۔ لکھنے والا ایک ایسا نوجوان تھا جو فیضی ابھننوں کا شکار ہو کر خود اعتمادی اور اپنی ذات پر بھروسہ کو چکا تھا اور اس نے خط کے ذریعے ایک مشہور باہر فیضات ڈاکٹر سے مشورہ طلب کیا تھا۔ اس خط کے کچھ حصے قارئین کی روپی اور استفادے کے لئے درج ذیل ہیں۔

سب سے بڑی بات، جس کی وجہ سے مجھے اپنی ذات نہایت حضرت نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں بد قسمی سے اس صلاحیت سے محروم ہوں، جسے شخصیت سازی میں ریڑھ کی بڑی کہنا چاہیے۔ آغاز جو انی میں، میں نہایت مضبوط اعصاب کا ایک تھا لیکن اب میں اعصابی طور پر اس حد تک کمزور ہو چکا ہوں کہ مجھے ہر چیز سے ڈر لگتا ہے۔ میں کوئی کام کرنے کا منصوبہ بنانا ہوں مگر جب آغاز کرنے کی گھری آتی ہے تو پہلو چنانے کے لیے ایسے بہانے ڈھونڈنے لگتا ہوں جن کی مرد سے میں اپنے آپ کو درھکا دے سکوں مجھے بخوبی علم ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، لیکن مختلف قسم کے ٹکٹک اور دزم ہر

صفحہ نمبر	عنوان
28	صحت مند خیالات کو ذہن میں جگہ دیجئے
29	زندگی سے لطف اٹھائیے
29	اپنے کام میں جذب ہونے کی عادت ڈالیے
30	کام کرنے کا ڈھنک بدل دیجئے
31	فرصت کے اوقات دلپیپ مشاغل میں بر کیجئے
32	آپ بھی ایک عظیم شخصیت بن سکتے ہیں
39	اپنے مقاصد کی درجہ بندی کیجئے
40	مالی منصوبہ بندی کرنا کیجئے
41	مناسب وقوف کے بعد اپنے مقاصد کا جائزہ لیجئے
42	چشم قصور سے اپنے آپ کو کامران دیکھئے
42	احساس مظلومیت
49	جوائزیت پیش کریں
55	کامیابی کا یقینی راستہ
57	پریشان کرن آغاز
58	ناموافق حالات
59	زیادہ عمر
60	ترمیٰ پس منظر
60	ایک نئی قوت
61	نئی قوت کا استعمال
62	کامیابی کے پانچ طریقے
64	سوچ کا انداز بدلیے
71	اچھی شخصیت کا اثر
76	شخصیت کی تعریف

شمع بک اینجنسی  
کی تکالیف سے نجات پاسکوں اور اپناہ میں اور جذباتی رویہ بدل کر لہرت و کامرانی کی راہ پر چلنے کے قابل بن سکوں؟“  
آپ اس نوجوان کی مشکل کی کیسے تشریح کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ منفی اصطلاحات کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہیں کہ بد نصیب نوجوان شخص ناموز دنیت کے شدید احساس کا شکار ہے یا آپ ثبت اصطلاحات کا ذکر کرتے ہوئے قرار دیں کہ مذکورہ نوجوان کو اپنی ذات کے بارے میں مزید خود اعتمادی کی ضرورت ہے۔ کیا اس نوجوان کا کسی غیر معمولی نویت کا ہے؟ کیا اپنی ذات کے بارے میں بد اعتمادی کا شکار صرف چند نوجوان ہی ہوتے ہیں؟۔ اگرچہ ہمارے ملک میں تعلیم کی کمی اور دوسروی و جوہ کے باعث ابھی تک ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے کہ ہم صحیح اخراج و شمار اور عملی تحقیق و تجویزات پر مبنی مندرجہ بالا سوالات کا جواب دے سکیں تاہم زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں ماہرین کی تحقیق کے مطابق جب ایک کالج کے ۱۲۵ اڈر گر بجھیٹ طلبہ کا نصیلی جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ۹۰ فیصدی نوجوان طالعمنامہ کی نہ کسی صورت میں شخصی ناموز دنیت اور محرومی کا شدید احساس رکھتے تھے۔ بعض طالب علم یہ سمجھتے تھے یا کم از کم اس چیز کا احساس رکھتے تھے کہ وہ مشکل دشابت، کھیلنے کو نہ کی صلاحیت، دماغی قابلیت یا پوشش شخصیت کے معاملے میں دوسروں کے مقابلے میں بہت کم تر واقع ہوئے ہیں۔ بعض نوجوانوں کو اگر اپنی کم زور جسمانی صحت اور قوت کا گلہ تھا تو بعض محبت میں ناکامی کی شکایت کرتے سنے گئے۔

ممکن ہے آپ کہیں کہ پوری جتوکے باوجود کسی پہاں استعداد کا سراغ نہیں لگا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پہاں استعداد کا شفاط مفہوم جو پہلا چکا ہے۔ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ اس قسم کی استعداد سے آپ اچھی طرح ستارہ بجانے یا پوشش انداز سے گنتوکر نے کاڑھنگ سکتے ہیں یا اپنے کاروبار کو سمجھ اور پاسدار

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول  
وقت مجھے گھیرے رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہیں کا شہ چھوڑ اور میں اپنی ڈنٹی الجھنوں کا پورا احساں و اور اک رکھتے ہوئے کوئی ایسا منصوبہ عمل میں نہیں لاسکتا جس کے بغیر میری زندگی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتی ہو۔  
ایں ذات کے بارے میں بد اعتمادی اور بے اعتباری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مجھے اپنے گھر سے کبھی مناسب حوصلہ افزائی اور جائزیں دستائش نصیب نہیں ہوئی۔ میری والدہ ہمیشہ مجھ پر نکتہ چینی اور تقید و تلقیض کے تیر چلانی رہتی ہیں اور میری کمزور یوں اور خامیوں کا موائزہ دوسرے، ہم بھائیوں کی اچھائیوں اور خوبیوں سے کرتی رہتی ہیں۔ اگرچہ ایسا کرتے وقت ان کی نیت اور خواہیں یہ ہوتی تھی کہ میں اپنے آپ کو کچھ بہتر سے بہتر بنانے کے لئے زیادہ محنت و مشقت سے کام کیا کروں، مگر اسے میری نصیبی سمجھ کر ان کا ردیہ اور طریقہ کاروبار قدر غلط تھا کہ مجھ پر ان کی ہر بات کا نتا اثر ہوتا۔ ہر وقت کی ڈانٹ پہنچانا در طحن و لشنج کے باعث میں خدا اپنی نظریوں سے گرتا چلا گیا اور میرا یہ خیال زیادہ پچھلی اختیار کر گیا کہ میں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے اپنے ارد گرد کے ماحول اور خود اپنے آپ سے لُپھی نہ رہی اور یوں زندگی کے بارے میں میرا رویہ بے پرواہی اور بے تلقی کارنگ اختیار کرتا چلا گیا۔

”مجھے معلوم ہے کہ اگر میرا بھی رویہ رہا تو میں کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا یہیں کبھی میں نہیں آتا کہ میں اپنی ڈنٹی اور جذباتی الجھنوں کو کیسے سلمھاؤں اور اپنے آپ کو کیوں کر بدلوں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اندر کوئی بنیادی خاہی پیدا ہو چکی ہے۔ ان تھائق و حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد آگر آپ اس نتیجے پر پہنچے ہوں کہ میں بالکل نکسا اور ناکارہ شخص ہوں تو مجھے آپ سے کوئی نگلہ ہو گا نہ اختلاف۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسا یقینی شورہ دے سکتے ہیں جس پر عمل کر کے میں اپنی زندگی کے موجودہ درد

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

9

### شمع بلک ایجنسی

یہ لکھا پڑا۔ ”اس وقت میری جو حالت ہے، دنیا میں کسی شخص کی نہ ہوگی، اگر میرے محوسات کو دنیا کے تمام لوگوں میں برابر برابر بانٹ دیا جائے تو روئے زمین پر ایک بھی خوش باش چہرہ نظر نہ آئے گا۔“

یہ الفاظ اس عظیم انسان نے ۱۸۳۱ء میں لکھے تھے۔ اب ہم آپ کی رجیسٹری کے لیے اس کے وہ الفاظ پیش کرتے ہیں جو اس نے ۱۸۶۲ء میں امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہے۔ ”اگرچہ ہم مشکلات سے دوچار ہیں تاہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد رہنا چاہیے، ہم ایک نئی قوم ہیں اس لیے ہمیں مشکلات کا مقابلہ بھی نہیں اور منفرد انداز سے کرنا ہوگا۔“

یہ حوصلہ اور خود اعتمادی لٹکن کو کہاں سے ملی؟ بات صرف اتنی ہے کہ پہلے الفاظ لکھتے وقت لٹکن ایک عام آدمی تھا۔ ہمے نہ تو ابھی تک اپنی صلاحیتوں کا احسان تھا اور نہ اپنی استعداد اور الہیت کا اندازہ، بعد میں اس نے اپنی ذات کو پانے کے لیے سر توڑ کوشش کی اور جب وہ اپنی ذات کا صحیح اور اک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو نہ صرف زندگی کے بارے میں اس کا روایتی بدلا یاکے خود بھی مختلف آدمی بن گیا۔ پہلے وہ ایک پسمندہ علاقے کا عام اور معمولی دلکش تکنیکن اب وہ امریکا کا صدر بننے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ کامیابی اسے اس وقت حاصل ہوئی جب اس نے اپنے آپ کو سمجھا اور پالا تھا۔ قدرت بے انسانی سے کام نہیں لیتی۔ وہ ہر شخص کو یکساں صلاحیت، الہیت اور حوصلہ دویست کرتی ہے۔ ان صلاحیتوں کا سراغ لگاتا اور انہیں پوری خود اعتمادی اور حوصلے سے بروئے کار لانا ہمارا فرض ہے۔ کیا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سکتے ہیں کہ آپ اس فرض کو جس دخوبی پورا کر رہے ہیں؟

### شمع بلک ایجنسی

8

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

بنیادوں پر استوار کر سکتے ہیں۔ بلاشبہ خصوصی استعداد سے یہ کارنا میں بھی انجام دیئے جاسکتے ہیں لیکن وہ استعداد جس کی آپ کو جتو ہے ان سے مختلف نوعیت کی حاصل ہے۔ اگر آپ ہر قسم کے انسانوں سے مراسم پیدا کر کے ان مراسم کو اسن طریقے پر بھانے کے لئے سے واقف ہیں تو یقین رکھیے کہ آپ کے اندر مطلوبہ استعداد بدرجہ اتم موجودہ اور آپ اس کی مدد سے کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتے ہیں۔

اگر آپ اپنے روزمرہ کے مہولات پر خلیل اندما سے اس طرح انجام دے سکتے ہیں کہ ان سے بوریت محسوس کرنے کے بجائے خوش گور طور پر لطف حاصل کریں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو قدرت نے وہ صلاحیت دویست کر کی ہے کہ جس کی مدد سے زندگی کو کامیاب و کارمان بنایا جاسکتا ہے۔ وہ لوگ، جو اپنی زندگی کا نہ کام پر درود خشم کر چکے ہیں، خاص طور پر نوٹ کر لیں کہ انہیں اگر زیادہ عرصے تک زندہ رہنا ہے اور زندگی میں بھر پور حصہ لیتا ہے تو اپنی کی ماہیوں اور ناکامیوں کا فراموش کر کے اپنے آپ کو یقین دلانا چاہیے کہ قدرت نے ہر انسان کے اندر صلاحیتوں کا ایک ایسا خزانہ دویست کر کر کھا ہے جو کسی خشم نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے جس قدر خرچ کیا جائے گا، اس میں تجویز ہے، مہارت اور اپنے آپ پر بکرہ سے جسکی نعمتوں کا ای قدر زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ یہ سوچیے بغیر کہ زندگی کا برا حصہ خشم ہو چکا، اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ ابھی آپ کو اپنی زندگی کا وہ کارنا سر انجام دیتا ہے جس کے لیے قدرت نے آپ کو تخلیق کیا تھا۔ اس کے بعد آپ پوری خود اعتمادی اور حوصلے کے ساتھ اپنے کام میں لگ جائیے۔ اگر آپ کا جذبہ صادق ہے تو کوئی وجہ نہیں کہنا کا مدد کیا چاہیے۔

ابراہیم لٹکن کے نام سے کون واقف نہیں۔ اس کی زندگی کے مشہور واقعات سے بھی آپ ضرور آگاہ ہوں گے لیکن شاید یہ معلوم نہ ہو کہ ۳۲ سال کی عمر میں وہ زندگی سے اس قدر ماہیوں اور بدلت ہو چکا تھا کہ اسے بڑی پریشان خیالی میں اپنی ڈائری میں

## کیا آپ زو دھس ہیں؟

دوسرا پرچے کے بعد جب نیم نے اعلان کیا کہ اب وہ امتحان میں نہیں بیٹھے گا تو ہمیں ذرا تجھ سے ہوا، سوچا، نرس تو ہے ہی معمولی بات پر پریشان ہو جانا اور کام سے ہاتھ اٹھایا اس کی پرانی عادت ہے۔ پرچے میں کوئی مشکل سوال دیکھ کر گھبرا گیا ہے اور فلی ہونے کی تہمت سے بچنے کے لیے امتحان سے بھاگ رہا ہے۔ اگلے پرچے میں سات دن کا وقہ تھا، اس دوران میں سب نے ہتھ دلائی تو پرچہ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ تقدیم کے پرچے والے دن پھر یہی حادثہ پیش آیا، ایک سوال پر آدھا وقت صرف کر دیا، باقی ماندہ آدھے وقت میں چار سوال کس طرح حل ہوتے ؟ فوراً ہاتھ پاؤں پھول گئے پھر گھبراہٹ اور جلدی میں جو یہ سوال گھسیتے تو کچھ یاد نہیں، کیا لکھ آیا اور کیا رہ گیا، سارے پرچے قریب قریب اسی انداز سے کیے، سب کی رائے تھی کامیابی شکل ہے۔ لیکن چند ماہ بعد جب نتیجہ نکلا تو وہ پاس تھا۔

بادی النظر میں یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے لیکن یقین جانتے ناگفکن ہرگز نہیں ہے، نرس آدمی فطری طور پر زیادہ ذہین ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلد ہی دل برداشت ہو جاتے ہیں اور کام ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ اپنی خداداد صلاحیتوں سے پورا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ نیم اگر زرا بھی خوصلے سے کام لیتا اور دل جنمی سے پرچے دیوار ہتا تو لازماً بہتر پوزیشن حاصل کرتا۔

نرس یا زو دھس ہونا ایک نفیاٹی بیماری ہے۔ اس میں فی الحقيقة کوئی برائی

## دارڑھی موچھوں کا نفیاٹی پہلو

”ماہرین نفیات“ نے چھرے اور سر کے بالوں میں اٹھار خیال کیا ہے۔ ڈاکٹر رویلینڈی مرضی اور اسی پتے جے ولمز کے بیان کے مطابق لےے بال طاقت اور مردگی کا نشان ہیں اور بالوں کی کاث تہذیب و تمدن کی نشاندہی کرتی ہے۔ ڈاکٹروں کے بیان کے مطابق تمدن کے پیش نظر مکمل مادی طاقت کو دبا کر روحانی تقاضوں کو ابھارنا پڑتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمیوں کے بالوں کے اسماں بذریعہ بدلت کر چھوٹے ہے جھوٹے ہو گئے ہیں۔

ماہرین نفیات نے اس سلسلے میں مچلنگو کی بھائی ہوئی خدا کی ایک تصویری کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے جس نے خدا کے خدوخال کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ وہ بہت طاقت و رخانق دکھائی دیتا ہے۔ اس کے لےے لےے بال اور گھنی دارڑھی ہے۔ مصنوعی بالوں کا ٹوپ جو انگلستان کی عدالتوں میں علیبت اور دنائی کے نشان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لےے بالوں میں طاقت کے اٹھار کی ترمیم شدہ صورت ہے۔ ڈاکٹروں نے مزید کہا ہے کہ شمالی امریکا کے اٹھین، جو اپنے دشمنوں کی کھوپڑیاں کھلتے تھے، اذیت پسند نہ تھے۔ ان کا مقدار صرف یہ تھا کہ زندگی اور طاقت کو نسونہ بنا کر دوسروں پر فتح حاصل کریں۔ ڈاکٹروں کے بیان کے مطابق اگر آدمی کی پیادی طاقت کو دبایا جائے تو اس میں گناہ پن آ جاتا ہے۔ جب وہ ٹوپوں اور مصنوعی بالوں کے اشتبہرات کی طرف توجہ دینے لگتے ہیں جب کہ وہ اس کی طائفی موٹی موٹی موچھوں سے کر سکتے ہیں۔

شمع بلک ایجننسی

13 خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول شمع بلک ایجننسی

### اپنی غذا کو بہتر بنائیے

ناقص غذا عصیٰ کمزوری کا ایک بڑا نامایاں سبب ہے، خصوصاً جن لوگوں میں پروٹین کی کمی ہو، وہ بہت جلد اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ مصروف یا مجرد کی زندگی برکرنے والے لوگ اکثر اپنی غذا کے بارے میں لا اپروا ہوتے ہیں ان کی خواک زیادہ تر ایک پیالی چائے اور بندی ڈبل روٹی سے ملی جاتی اشیاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی چیزوں کے مسئلہ استعمال سے جسمانی ضروریات پوری نہیں ہوتیں، چنانچہ وہ اخخلال، افرادگی اور بد دلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھی اخخلال بالآخر عصیٰ کمزوری پر پڑتے ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھی غذا حاصل کرنے کے لیے کسی خاص تردد کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اچھی غذا سے یہ مراد ہے کہ آپ کے دستِ خواہ پر ہمیشہ بھنا ہوا گوشت، چٹ پیٰ تر کاریاں اور مسالے دار چھلی ہی ہو، بلکہ سادہ دودھ، دہی، انڈے اور کسی حد تک گوشت۔ چھلی اور پھلؤں اور سبزیوں سے اپنی روزمرہ کی ضرورت پاسانی پوری کر سکتے ہیں۔ یاد رکھئے جہاں تک آپ کے مالی وسائل اجازت دیں آپ کا مطیع نظر، اچھی اور ملی جلی غذا، ہونا چاہیے۔ تھوڑی اسی چائے میں زیادہ دودھ ڈال کر بھی یہ مقد� بخوبی پورا کیا جاسکتا ہے۔

### تازہ ہوا کھائیے اور ورزش کیجئے

حقیقت کسی سے پوچھنے نہیں کہ انسانی صحت اور تندریت کے لیے تازہ ہوا اور ورزش دونوں بے حد ضروری ہیں، چاہے کھانے کے بعد کھلے گھن میں مختصری چھل کتی ہی کیوں نہ ہو اس کا اثر انسانی صحت پر بڑا خوٹگوار ہوتا ہے۔ غور کر کیں تو آپ کو

نہیں، اس بیماری میں بھلا افراد کے متعلق عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کی جموجی زندگی حرست دیاں کا مرتع ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ خارے میں رہتے ہیں۔ علم نفیات کی جدید ترین تحقیقات کی رو سے یہ بات مکسر غلط ثابت ہو چکی ہے اسکے برعکس ماہرین کا کہنا ہے کہ زود حص لوگ اس قدر تیز احساس کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کے لیے حالات و اوقاعات کا تجزیہ کر کے مستقبل کے لیے لائق عمل تیار کرنا، پھر اس پر عمل کرنے کے لیے نہ تھی راہیں نکالنا اور وسائل مہیا کرنا چند اس مشکل نہیں ہوتا۔ البتہ جب احساس بڑھ کر تخلیق پرستی کی حدود کو چھوٹنے لگتے پھر یہی قدرتی جو ہر انسان کی ترقی و کامرانی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس کی صلاحیتیں بری طرح متاثر ہوتی ہیں اور وہ اعصابی کش کلکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہی اعصابی کش کلکش کا شکار نہیں ہوئے تو خدا سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کو یہی اس مصیبت سے محفوظ رکھے، کوئنکہ روحانی کرب سے بڑھ کر کوئی جسمانی درد اتنا شدید نہیں ہوتا۔

زندگی میں جب کبھی کوئی اسی نفیاتی انجمن پیدا ہو جائے تو اس سے نجات پانے کا احسن طریقہ یہی ہے کہ فوراً کسی ماہر نفیات سے رجوع کیا جائے! تاہم ماہرین نے چند ایسے عام فہم اور سادہ رہنماء صاحول وضع کر لیے ہیں کہ ان پر عمل پیرا ہو کر اس بیماری سے بآسانی چھکا را پایا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں اولین اور اہم بات یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ انسان کو کسی مرحلے میں بھی اپنی عصیٰ کمزوری کو بہاش یا ڈھال بنا کر اپنے فرائض سے پہلو ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھئے اپنی عصیٰ کمزوری اور فراز رتوں ہو جانے کا بار بار اعلان یہ بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے کسی حرم کی جدوجہد کرنے سے پہلے ہی اپنی گلکست کا اعزاز کر لیا ہے۔ بالفاظ دیگر آپ نے ترقی و خوشحالی کے دروازے خود اپنے اوپر بند کر لیے ہیں۔

شمع بک ایجننسی خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول 15

ہونے کی صلاحتیں دیکھت کر رکھی ہیں۔ زود حسی کو بنیاد بنا کر ذمہ داریوں سے کتنی کترانے کی کوشش نقصان دہ ہے۔ اس کے بر عکس کوشش کیجئے کہ جس کام سے آپ کو خوف آتا ہے وہ بار بار آپ کے ہاتھوں سرانجام پائے۔ اس طرح آپ بڑی آسانی سے اپنے خوف پر قابو پا سکتے ہیں۔

اس حقیقت کو فرماؤش نہ کریں کہ خوف ایک فطری مُل ہے۔ ضرر سال اشیاء سے لازماً خوف آتا ہے اور یہ اسی خوف اور ڈر کا نتیجہ ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں کتنی مہلک حدیثوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ڈرتا ہے کہ کہیں وہ راہ چلتے کسی کار کے پیچے کرنہ کپلا جائے تو لازماً بڑی احتیاط سے ایک طرف ہو کر چلتے گا اور سڑک پار کرتے وقت دا کئیں باسیں ضرور دیکھ لے گا۔

زوس لوگوں کے خوف اور ڈر کا معملا اس کے بالکل المٹ ہے، ان کا خوف ہمیشہ بے سر و پا اور مختلک خیز ہوتا ہے، چوہوں سے خوف کھانا، چپکل سے ڈرنا، اجنبی افراد کے سامنے بولنے سے پچکانا اور تمہاری یا تاریکی سے پریشان ہو جانا، ان کے ڈر اور خوف کی عام مثالیں ہیں، ان سے دامن بچانا ضرور ہے ورنہ یہ بے نام خوف آپ کے راستے میں دیوار بن کر حائل ہو جائیں گے اور آپ اپنی خداداد صلاحیتوں سے بھر پور فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اس حتم کے خوف سے نجات پانے کے لیے دوسروں کی مدد کا سہارا نہیں، بلکہ خود اپنے طور پر کوشش کریں اس کے لیے خود آپ کے اندر سے تحریک الحسنا ضروری ہے۔ دبیر و فی دباؤ انسانی مذہبات و احاسات کی نشوونما اور پیشگوئی کے حق میں ہمیشہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک بار انسان کسی مشکل سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے تو آئندہ کے لیے تمام نا مساعد حالات سے نجٹنے کے لیے دوسروں کی محتاجی سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

شمع بک ایجننسی خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول 14

معلوم ہو گا نہ سو آدمی زیادہ تر ایسی زندگی بر کرتے ہیں جس میں انہیں کھلی ہوا میں نکلنے اور روزش کرنے کے لیے بہت کم موقع ملتے ہیں۔ زندگی کو خوشنگوار بنانے اور معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں سے کامیابی کے ساتھ عہدہ برآ ہونے کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے۔ پیدل سیر، پیرا ایک یا اپنی پسند کے مختلف کھلیوں میں حصہ لینے کے بعد زندگی افراد کے رویے اور طرزِ فکر میں اکثر خوشنگوار تبدیلی رونما ہوتی ہے، آپ بھی آزم کر دیکھ لیجئے اس میں کہاں تک صداقت ہے۔

### آپ کو آرام کی ضرورت ہے

ماہرین نفسیات کا کہنا ہے، نہ سو آدمی کے علاج معا الجے کے اب تک جتنے طریقے دریافت ہوئے ہیں! ”آرام“ ان سب میں نہایاں اہمیت رکھتا ہے۔ اثر دیو دینے یا کسی جمیع کے سامنے تقریر کرنے کا تصور انسان کو ہمیشہ نہ کر دیتا ہے، لیکن اگر ان آزمائش سے دوچار ہونے سے پہلے چند لمحے سے ستابلیا جائے تو سارا ڈر اور خوف حیرت انگیز طور پر دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح تھکن، غصے اور جھمٹھلاہٹ سے بھی بآسانی نجات مل سکتی ہے۔ نخت فرش یا گلدے پر صرف دس منٹ تک سکون سے لینے رہیں تو نہ صرف طبیعت کا بیجان اور اضطراب ختم ہو جاتا ہے، بلکہ تھکے ہوئے اعصاب بھی پر سکون ہو جاتے ہیں۔ کھوئی ہوئی تو اتنا بھی جمال ہو جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو پھر سے تازہ دم اور شاش بٹاش سجھوں کرنے لگتا ہے۔ زیادہ نہ سو افراد کے لیے یہ سادہ سائل ڈر، خوف اور غصے پر قابو پانے کے سلسلے میں بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔

### حالات کا مقابلہ کرنا سکھئے

زندگی میں جب کبھی آپ کو اہم ذمہ داریاں سنبھالنا پڑیں تو گھبرا یے نہیں۔ یقین رکھئے، دوسرے لوگوں کی طرح آپ میں بھی قدرت نے ان سے عہدہ برآ

## خود کو مصروف رکھئے

باعوم کہا جاتا ہے کہ نہیں آدمیوں کو زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مفروضہ سراسر ناطق فلسفی پر مبنی ہے۔ کام کی زیادتی بے فک، برقض کی محنت کے لیے مفترضات ہوئی ہے لیکن اگر ذرا اعتدال سے کام لیا جائے تو چاہے کوئی سما کام ہو، نہایت خوٹکوار بن جاتا ہے اور یہ امرواریق ہے کہ مفید کام یا اہم فرض کی تجھیں کے بعد انسان کو ایک بے پایاں سکون اور اپنی زندگی کے با مقصد ہونے کا واضح احساس ہوتا ہے۔ نہیں آدمی اگر اپنے آپ کو کسی مفید اور با مقصد کام میں مصروف رکھے تو اسے اس کی دلچسپیوں کے مقابلے میں اپنے قلکار اور غم کی شدت کا بہت کم احساس ہو گا۔

## مستقبل کی منصوبہ بندی کر لیجئے

نہیں آدمی اکثر آنے والے دن کے خیال سے مفترض رہتے ہیں اپنی صالیحتوں اور وسائل کو مد نظر کر کر اگر جامع منصوبہ بندی کر لی جائے تو انسان بڑی آسانی سے اس خوف سے نجات پا سکتا ہے۔ مختلف غیر لینی اور ناگہانی واقعات و حادثات سے بنتے کے لیے پہلے سے بندوبست کر لیا جائے تو ان کا اثر زیادہ شدید ہو دے خوف ناک نہیں ہوتا۔ چھوٹی مولی مشکلات از خود متمدد ہوتی ہیں۔

## احساس ظرافت پیدا کیجئے۔

روزمرہ زندگی میں انسان کو نت نئے حادثوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے لیکن اگر آپ میں احساس ظرافت موجود ہو تو ان حادثات کی تلقی اور اثرات کو بڑی آسانی کے

## قدرت دعوت اظفارہ دیتی ہے

تدریتی مناظر کی خوبصورتی، خوشناہی ای اور رنگارنگ پھول دیکھ کر انسان پر عالم سرخوشی طاری ہو جاتا ہے۔ سبکی وجہ ہے کہ اکثر ماہرین نفسیات نہیں اشخاص کے لیے ایسے مشاغل تجویز کرتے ہیں جن میں انہیں قدرت کا زیادہ قرب حاصل ہو۔ مصروفیات کی وجہ سے اگر کہیں باہر نہ جانا ممکن نہ ہو تو گھر میں پھول اور خوبصورت درخت لگا کر انسان بڑی آسانی کے ساتھ خوشی اور سرست کاسامان پیدا کر سکتا ہے، تاہم جب کبھی ممکن ہو نہیں آدمی کو شور و غل اور ہنگاموں سے دور خاموش قدرتی مناظر سے محفوظ ہونا چاہیے۔ ان کا گہرا اسکوت اور خاموشی ہم پر جو گمراہ اثر چھوڑتی ہے وہ ہماری جذباتی اور نفسیاتی کیفیات کی محنت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ پالتو جانور بھی نہیں آدمیوں کے بڑے اچھے روشنی ثابت ہوتے ہیں۔

## نیند بھی ضروری ہے

نیند کی کمی انسان کو بہت جلد زدھی کا شکار بنا دیتی ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے روزمرہ مصروفیات میں چند لمحے ایسے ضرور کہیں کہ آپ ان میں سکون کے ساتھ اس کی کوپورا کر سکیں۔ نہیں آدمی عام طور پر جس میجان اور اخطراب کا شکار ہوتا ہے وہ نیند کے درواں میں بڑی حد تک دور ہو جاتا ہے اور اعصابی کھنچا اور الجھن کی شدت خاصی کم ہو جاتی ہے۔ نیند سے بھر پور فائدہ اٹھانے کے لیے ذہن سے ہر قسم کے منقی خیالات کو نکال دیجئے۔

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول  
19

### شمع بلک ایجننسی

تہمہری ناگنگ بالکل ضائع ہوتی۔ ”ضائع نہیں ہوئی بھی.....اس نے مکراتے ہوئے میری بات کاٹ دی“۔ یہ ناگنگ میں نے جنگ میں اپنی قوم اور وطن کی نذر کر دی ہے اور پھر اس نے ایک فلک شکاف قبھہ لگایا۔ یہ صورتحال میرے لیے قطبی غیر متوقع تھی میں شرمندہ سا ہو گیا۔ اپنی ندامت کو چھپانے کی خاطر ایک اور سوال کرڈا! جسمیں کہیں اس پر افسوس نہیں ہوا؟

افسوس کیسا پایارے! ابتدائی چند دن ضرور پر بیان رہا۔ لیکن جب زخم ٹھیک ہو گئے اور میں میسا کھیوں کے سہارے چلنے لگا تو ساری پر بیان جاتی رہی۔ اب تو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ایک ناگنگ سے معدور ہوں! اس نے زوردار قبھوں کے درمیان اپنی بات کمل کی پھر بولا۔ دوڑ لگاؤ گے میرے ساتھ؟ میں جھینپ کر خاموش ہو گیا۔ طاہر کے اس طرز عمل سے میں ہے حد متاثر ہوا۔ سوچنے لگا، یہ اچھا ہی ہوا اس نے ناگنگ کث جانے کے باوجود اپنی جان کو روگ نہیں لگایا ورنہ شدت غم سے گھل کر رک کب کامر چکا ہوتا۔ لکڑا ہونے کے باوجود اس کا عزم لائق ستائش تھا۔ کوئی اور ہوتا تو خود رجی (SELF PITY) کا شکار ہو جاتا اور زیادہ سے زیادہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنی مظلومی اور محرومی کی دادستان دردناک پیرائے میں بیان کرتا۔

خود رجی ایک نفیات عارضہ ہے اور اپنے آپ پر ترس کھانا اس کی علامت ہے۔ اس کا شکار ہر وقت اپنی خامیوں اور محرومیوں پر کڑھتا رہتا ہے، لیکن مایوسی، بدrolی اور قتوطیت کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں پڑتا۔ زندگی کے مسائل سمجھنے اور حل ہونے کے بجائے مزید الجھجاتے ہیں۔ زندگی کو پر لطف اور خوشنگوار بنانے کے لیے اس طرز عمل سے چھکارا پانہ بیت ضروری ہے۔ اگر آپ ترقی اور کامیابی کے متنی ہیں یا ایک جاذب نظر اور مقنٹا طبی خصیت بننا چاہتے ہیں تو اس مکار دشمن سے ہر دقت ہوشیار رہیے اور نہ یہ آپ کی فطری صلاحیتوں کو ناکارہ کر کے رکھ دے گا اور آپ قوت،

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول  
18

شمع بلک ایجننسی  
ساتھ رکھنے کر سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ اگر آپ کی کسی بات کا مذاق اڑاتے ہیں تو رہا نہ مانیں بلکہ اس سے لطف انداز ہونے کی کوشش کریں اور صدقہ پا کر خود ان پر لطفی انداز میں چوٹ کریں۔ اشتغال انگیز بات کو اگر دلچسپ انداز میں بیان کیا جائے تو نہ صرف مقاطب برائیں مانتا بلکہ آپ خود بھی غصے اور چھٹلاہٹ سے پیدا ہونے والے اعصابی کھنچا اور اچھی سے محفوظ رہتے ہیں۔ زرد شخص کے لیے اس لطفی حس کی موجودگی اس لحاظ سے بڑی فائدہ مند ہے کہ اگر کسی مرحلے پر وہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے تو اپنی ظرافت اور لطفی انداز کی بدولت اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ زرد حس سے نجات پانے کے لیے اپنے جو چند اصول بتائے گئے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے کسی خاص تیاری اور اہتمام کی ضرورت نہیں؛ صرف عزم سیکم اور نیک ارادہ درکار ہے۔

### اپنے آپ پر ترس نہ کھائیے

ظاہر میرا بچپن کا دوست ہے۔ کانچ میں بھی ہم اکٹھے پڑھتے رہے۔ بڑا نہ کہ اوہ کھلنڈ رالکا تھا۔ بر سول بعد راجا نک ملقات ہوئی۔ میں اسے بالکل نہ بچاں سکا۔ بچاتا بھی کیے کہاں کانچ کے زمانے کا وہ مضبوط اور کسرتی جسم کا ای تھیلیت اور کہاں یہ کمزور، زرد رو، نہ حال اور معدور آدمی۔ اس کی دا بنسنی ناگنگ کثی ہوئی تھی۔ وہ میسا کھیوں کے بہارے چل رہا تھا۔ اس نے مصالحت کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں دیکھتا رہا وہ بولا: ارے چھڑنیں بچاںتا، میں طاہر ہوں۔

طاہر! میرے منہ سے بے ساخت تکلا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ میری نظریں بار بار اس کی کٹی ہوئی ناگنگ اور میسا کھیوں پر جاہشیری تھیں اسے معدور دیکھ رکھنے والی تکلیف ہوئی۔ بخط شہ ہو سکا تا دلکھرے لجھ میں پوچھا! اب افسوس ہے

حوصلے، عزم اور جرأت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس عیار دشمن پر قابو پاتا زیادہ مشکل نہیں، بلکہ ذرا سی ہمت اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس طبقے میں مختلف ماہرین نفیات نے چند اصول وضع کے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر اس دشمن کو بآسانی تکست دی جاسکتی ہے۔

### یہاں فرشتے نہیں ہتے

مارکس لوری لی، بملکت روم کا شہر فرم رواگزرا ہے، ایک روز اس نے اپنی ڈائری میں لکھا: "آن میں ان لوگوں سے مٹے والا ہوں جو بڑھ پڑھ کر باتیں بناتے ہیں۔ خود غرض، انا پسند اور ناشکر گزار ہیں تاہم مجھے نہ تو ان پر کوئی تعجب ہے نہ ذرا سی جیرت ایسے لوگوں کے بغیر یقیناً دنیا سونی نظر آئے گی۔"

مارکس لوری لی کی رائے معقول ہے۔ ہمارے گرد پیش یکروں لوگ آباد ہیں، وہ سب ایک درسے سے مختلف مزاج، طبیعت اور خصائص رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ لین دین اور دوستانہ مرام سوچ بھج کر استوار کرنے چاہیں۔ اگر کبھی آپ کو ناکامی کا مند یکناپڑے کسی شخص کی کوئی حرکت ناگوارگزرا ہے یا اس کی کسی بات سے صدمہ پہنچے تو اس پر نہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے نہ جھنجھلانے اور کڑھنے کی، یاد رکھئے، آپ کے گرد پیش فرشتے نہیں ہتے۔ یا ان لوگوں کی دنیا ہے وہ انسان، جو خطا کا پڑا شہر ہے۔ یہاں کوئی شخص بھی آپ کو جسم اخلاق یا مجموعہ کمالات نہیں ملے گا، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب، خامی یا کمزوری ضرور ہوگی، اس لیے ان کی حرکتوں کا کوئی اثر نہ لجھے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جب آپ درسروں پر تکیر کرنے کی عادت چھوڑ دیں۔ ان سے بھی اس قدرت، قواعد و ابتداء کی عارضہ ان کو اگر وہ ان کو پورا نہ کر سکیں تو ناحن تکلیف اور پریشانی ہو۔

### دوسرے آپ سے زیادہ بدنصیب ہیں

چین کی ایک مشہور کہاوت ہے! میرا خیال تھا دنیا کا سب سے زیادہ بدنصیب شخص میں ہی ہوں کہ میرے پاس جو تین یاں، لیکن جب مجھے گلی میں ایک ایسا شخص دکھائی دیا جو دنوں پاؤں سے محروم تھا تو اپنے خیال پرندامت ہوئی پڑھ چلا کہ دنیا میں مجھے کہیں زیادہ بدنصیب لوگ موجود ہیں۔ اس کہاوت کا اچھی طرح زہن لشیں کر لجھے۔ یہ خود رجھی کے خلاف جنگ میں آپ کی بے حد مدگار ثابت ہو گی۔ اس کے علاوہ، جب کبھی آپ کو اپنی مجبوری و مظلومی کا احساس ہو اور ذہن میں خود رجھی کے جذبات ابھرنے لگیں تو ان دلیر اور پلہمات انسانوں کا تصور کریں، جنہوں نے پیدائش مخدور یوں اور مشکلات کے باوجود غیر معمولی کامیابی حاصل کی اور لا فانی شہرت پائی ملشیں اندھا تھا لیکن سب اسے ایک عظیم شاعر تسلیم کرتے ہیں یہ تھوڑوں نے موہیقی کی آناتی دھیں ایجاد کیں! حالانکہ وہ خود بہرہ تھا۔

### خدا کی نعمتیں بھی یاد رکھئے

شوپنگار نے ایک بار کہا تھا! "جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کے بارے میں تو شاذ و نادرتی سوچتے ہیں، لیکن جو نہیں ہوتا اس کے لیے اکثر فکر مندر جتے ہیں۔" یہ طرز فکر انسانی زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہے، جنہوں خود رجھی میں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جو چیز آپ کی دسترس سے باہر ہے یا آپ کے پاس نہیں ان کے بارے میں سوچ سوچ کر بہکان ہونا بے فائدہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے جن نعمتوں سے آپ کو لواز رکھا

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

23

### شمع بک ایجننسی

کوئی حقیقت نہیں۔ اس دولت کو ہر وقت اپنی لگاہ میں رکھیں۔ یہ دولت آپ کی آنکھیں، کان، ٹانگیں، بچے اور خاندان والے ہیں کیا آپ اپنی دونوں آنکھیں ایک کھرب روپے کے عوض بینے پر آباد ہو جائیں گے؟ اپنے کان، ہاتھ، پاؤں، ٹانگوں اور بچوں کا کیا لیں گے؟ اس سارے اٹاٹے کو جمع کیجئے اور دیکھنے آپ کتنے را ک ملیرروں، فورڈوں اور سیکلوں سے زیادہ امیر ہیں۔ اپنے پرانے طرز فکر کو بدلتے جائے اس طرح آپ کی سوچ میں بتدریج جو تبدیلی آئے گی اس کی بذوقت جذبہ خود رجی پر مزید کاری اور شدید ضریب لگائیں گے۔

### حالات کا مقابلہ کیجئے

انسان میں پک کی حرمت اگریز اور پرسار اوقت پوشیدہ ہے۔ ڈاکٹر الفرد ایڈل بر سوں اس فطری وقت کا جائزہ لینے میں مصروف رہا۔ اس کا کہنا ہے یہ قوت انہیں کام کرنے کا موقع دیا جائے تو یہ رجیات کو بشت میں بدلتی ہے۔ اگر اسے آزادی سے کام کرنے کا موقع دیا جائے تو یہ خود خود کام میں لگ جاتی ہے اور انسان کی پیشتر مشکلات کا فوری خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جذبہ خود رجی اس کے لیے قاتل ہے اسے اس کی دستبردار سے حفظ رکھنا ضروری ہے۔

### مصروف رہنا سکھئے

جذبہ خود رجی سے نجات پانے کا ایک کامیاب اور موثر طریقہ یہ ہے کہ اس کے عالمی طور پر مرگم عمل ہو جائیں۔ اپنے غم اور دکھنے سے لگا کر چکے سے بیٹھ جانا خلاف میں۔ اپنے آپ کو عالمی اقدامات کے لیے آبادہ کریں۔ مستقبل کے کاموں کا مناسب نہیں۔ کوئی نیا کام یا مشغله شروع کر دیں۔ خصوصاً آپ خود کو تھا محسوس کر رہے ہیں یا غم زدہ ہیں تو آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں کی مدد کریں ان کا ہاتھ بٹا جائیں۔

### شمع بک ایجننسی

22

ہے ان کے متعلق سوچئے۔ آگر آپ کو شکایت ہے کہ مکان چھوٹا ہے تو ان بے ہمارا خاندانوں کو یاد کیجئے جن کے پاس سرچھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آگر آپ کی جسمانی عارضے یا دکھ میں جھاتا ہیں۔ تو اپنے اڑوں میں رہنے والے ان دائمی اریاض لوگوں کا خیال کیجئے جن کی جیب میں علاج کے لیے پھوٹی کوڑی تک نہیں۔ آگر آپ کو اپنی ملازمت کے متعلق کوئی شکایت ہے تو ان کا ان کنوں اور ماہی گروں کی زندگی پر نظر ڈالیے جنہیں صرف دووقت کی روٹی کے لیے اپنی جان جو گھوٹوں میں ڈالنا پڑتی ہے۔

ایک شخص کا واقعہ ہے ملازمت سے رہا رہا ہونے کے بعد اس نے اپنا کار و بار شروع کیا۔ چند ماہ تک خوب منافع ہوا لیکن پھر مسلسل گھاتا پڑنے لگا اور دوکان بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، اسے پریشانیوں نے گھر لیا، ہر وقت کبیدہ خاطر رہنے لگا کھانا پینا حرام ہو گیا۔ ایک روز دوسرے شریک کارنے کیا! افسوس کی بات ہے بھی تمہیں اپنے آپ پر شرم آئی چاہیے۔ دنیا میں اکیلے تم ہی تو مصیبت زدہ نہیں ہو۔ اگر دکان کچھ حصے کے لیے بند کرنی پڑی تو کیا قیامت آجائے گی۔ حالات مدد نہیں پر دوبارہ کھوٹی جا سکتی ہے۔ تمہارے پاس تو خدا کا دنیا ہوا اتنا کچھ ہے کہ تمہیں خدا کے حضور عجز و نیاز سے جگ جانا چاہیے لیکن تم ہو کہ ہر وقت بڑی راستے رہتے ہو۔ ذرا میری طرف دیکھو، باز دو کٹ چکا ہے، آدھا چھر جھلسا ہوا ہے لیکن کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا۔ تمہاری بھی حالت ری تو صرف سارا کار و بار تپٹیت ہو جائے گا بلکہ تمہاری صحت اور گھری رہ بھی سلامت نہیں رہے گا۔

آلیور کر مولیں کے عہدے میں تعمیر شدہ اکٹھ عمراتوں پر یہ فقرہ لکھا ہے! ”سوچو اور شر کرہ“۔ ان الفاظ کو آپ بھی اپنے دل کی ختنی پر فرش کر لیں اور ٹھنڈے دل سے خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں شمار کریں۔ آپ کو ایک ایسی ناقابل یقین دولت کے مالک ہونے کا احساس ہو گا جس کے آگے ”علی بابا“ کے افسانوی مال و متاع کی بھی

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

25

### شمع بک ایجننسی

جائیے جلد یا بدیر آپ اس کے عادی ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں تمام ممکنات دواؤں کے اوصاف موجود ہیں۔ دماغی امراض کے ماہرین اپنے مریضوں کو اکثر یہی تلقین کرتے ہیں۔ اعصاب کے لیے صرف رہنے سے بہتر اور سُتی دوا آج تک دریافت نہیں ہو سکی۔ جذب خود رحمی کو لکھتے دینے کے لیے کرمہت باندھ کر کام میں صرف ہو جائیے۔ آپ کا خون گردش کرنے لگے گا، ذہن کو تحریک ملے گی اور جسم کے اندر زندگی کی شبت لہریں خود خود خود رحمی کے جذبات کی جگہ لے لیں گی۔

### شووق وارفتہ نے توڑا زندگانی کا جمود

عرصہ گزار میں پنج بڑیں سے گاؤں جا رہا تھا۔ گاؤں کی ست خراں نے بے حد بور کیا۔ طبیعت کی ساری بیاثثت اور فکری جاتی رہی۔ میں نے جماں یاں لیتے ہوئے کھڑکی سے پشت لگائی۔ سامنے کی نشست پر ایک بڑے میاں بیٹھے تھے وہ دیکھا یک چلائے! ”سبحان اللہ“ مجھے ناگوار گزر اور ارخ بدلا اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ تیری سے پچھے کی طرف دوڑتے ہوئے درخت اور کھنیت ملکی چاندنی میں بڑے پر اسرار، خوبصورت اور جاندار محسوس ہو رہے تھے۔ ایک طرف کسی موڑ کی لال تھی۔

تمہاری

ہوئی

پتہ

مددوم

ہوتی

جاتی

رہی۔

اسی لمحے انجمن کی تیزی میں فضا میں ابھری، میں نے ہلکی سے بھر جھری لی۔ سارے جسم میں ایک عجیب و غریب سننا ہٹ کی رو دوڑ گئی۔ ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے محمد جذبات و احساسات اچانک پھٹکنے لگے ہیں۔ ذہن پر چھائی ہوئی۔ ساری جھنطہاٹ اور کوفت جاتی رہی۔ سفر کا یہ تجربہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ اس کے بعد میں کبھی اکتا ہٹ اور پرمردگی کا دھکار نہیں ہوا۔ کسی نے خوب کہا ہے: زندگی ایک دسیخ و عریض ہازی گاہ ہے۔ یہاں کا کوئی کام سننا ہٹ سے خالی نہیں۔

### شمع بک ایجننسی

24

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

وقت بجا طور پر ہر زخم کا مرہم ہے لیکن یاد رکھیے کام اس سے بھی کہیں اچھا مرہم ہے۔ نفیات کا ایک مسلم اصول ہے، انسان خواہ کتنا ہی ذہن ہو بیک وقت ایک سے زیادہ چیزوں کے متعلق سوچ پھر نہیں کر سکتا۔ بالکل بھی بات جذبات کی دنیا پر بھی صادقہ آتی ہے، ہم سب بیک وقت کسی اشتعال انگیز واقعے پر، بہت زیادہ خوش یا بہت زیادہ رنجیدہ نہیں ہو سکتے۔

ایک شخص نے اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہا! میرے دو بچے یہے بعد دیگرے حادثوں کا شکار ہو کر چل بے، تو میں اس صد سے کو برداشت نہ کر سکا۔ اعصاب متزلزل ہو گئے، خود اعتمادی جاتی رہی، بھوک اور نیند اڑاگئی، کسی پہلو چین نہ آتا۔ ڈاکٹروں نے خواب آور گولیاں استعمال کرنے اور سیر و قفرخ کا مشورہ دیا مگر کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی۔ ڈنی اذیت میں پتترنخ اضافہ ہوتا رہا۔ ایک شام تھا، افسر دہ اور سو گوار بیٹھا تھا کہ چار سالہ بچہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا الباہری، میری سائکل ٹھیک کر دیجئے میں نے بہت تلاطفروہ پہنچ رہا۔ بالآخر مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔

سائکل کا صرف ہینڈل ٹھیک کرنا تھا۔ یہ معمولی سائقی ٹھیک کرنے میں تن گھنٹے گئے۔ کام ختم ہوا تو میں نے محسوس کیا یہ وقت اپنی سکون اور اطمینان سے کٹا۔ اس اکشاف نے میرے لیے ایک غیر معمولی کوئی دی۔ سوچا اگر میں کسی ایسے کام میں صرف رہوں جس میں سوچ پھر اور مضبوطہ بندی کی ضرورت ہو تو میری افسر دی اور پر بیٹائی جاتی رہے گی، چنانچہ صرف رہنے اور کام کرنے کا تھیہ کر لیا۔ چند ہی روز میں پھر سے ناریل اور ہشاش بٹاش انسان نظر آئے۔

اگر بزری کے مشہور شاعر میخی سن کے غریب دوست آر قریلہم کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی۔ مجھے کام میں فرق ہو جانا چاہیے و گرشہ مایہی اور غم چاہ کر دیں گے۔ ممکن ہے ابتداء میں آپ کو کام کا عادی ہونا۔ ملک کام نظر آئے لیکن یقین

شمع بک ایجننسی 27 خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

اور کامیابی کی وجہ سے ترقی و کامرانی کے کئی نہری مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انسان میں یہ جذبہ موجوداً اور بیدار ہو تو صورت حال مختلف ہو جاتی ہے۔ اس کی غیر موجودگی، معمولی ذہانت اور تھوڑی سی لیاقت کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ انسان کی بہت سی فطری لکزوریاں اور خامیاں اس جذبے کے پر پڑے میں چھپ جاتی ہیں اور وہ ترقی و کامرانی کے راستے میں رکاوٹ نہیں نہیں۔ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے ناکام ہونے والے اکثر افراد کا بڑا الیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طلاقی قوت کے وجود اور اسرارے زندگی بھر بے خراور نا آشنا رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی ناکام و نامراد افراد کی صفت میں کھڑے ہیں، کوئی کمزوری، عصی تباہ، ذر، خوف یا احساں کتری آپ کی ترقی و کامرانی کی راہ میں رکاوٹ بن کر ہو گیا ہے تو گھبرائے نہیں، پریشان ہو کر میدان سے بھاگ جانا مردوں کا شیوه نہیں۔ ولوںے اور وارثی شوق کی خلک میں قدرت نے جو ناقابل تحریر قوت آپ کو دی دیت کر رکھی ہے، اس کا سراغ لگائیے اور اپنے بروئے کار لائیے۔ اس کی طلاقی کش کامیابی و کامرانی کو خود بخود آپ کے قدموں میں بخٹک لائے گی۔ یہ قوت ہر انسان کے قلب کی گھرائیوں میں موجود ہے۔ اس سے کامقدامہ اٹھانے کے لیے زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں۔ ماہرین انسیات نے آپ کی مدد کے لیے چند بڑے سادہ اور عام فہم اصول وضع کر دیے ہیں ان کو رہنمایا کر آپ بڑی آسانی سے راستے کی ہر مشکل پر قابو پا سکتے ہیں۔

شمع بک ایجننسی 26 خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

سننا ہٹ کا یہ احساس انسان میں ولوںے اور وارثی شوق کا ایک ایسا جذبہ ہے اور اس کی موجودگی میں کائنات کی کوئی شے یا زندگی کا کوئی عمل طبیعت پر بارجھوں نہیں ہوتا۔ یہ جذبہ انسان کو آمادہ عمل رکھنے کے لیے ہمیشہ ایک قوی الائچہ محرك کا کام دیتا ہے۔ حقیقی ولوںے اور وارثی شوق فی الواقع کسی آفاقی صفت سے کم نہیں۔ انسانی قلب کی گھرائیوں سے جب کبھی یہ سوتا پھوٹا ہے، انسان ہمیشہ ترقی و عظمت کی شاہراہوں پر گامزرن نظر آیا ہے، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے زندگی میں کبھی کوئی غیر معمولی کارناٹا انجام دیا ہے ان کی ذات اسی ولوںے اور وارثی شوق کی صفت سے آرائتھی۔ مشہور ماہر انسیات رسیلف والڈوایرین کا قول ہے: ”دنیا میں کوئی کارناٹمہ ولوںے اور وارثی شوق کے بغیر ظہور میں نہیں آ سکتا۔ زندگی میں کامیابی اور سرخودی حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بہترین محرك نہیں۔“

تاریخ انسانی کے اور اراق اس قول کی صداقت کے گواہ ہیں۔ ایک بڑے تجارتی ادارے کے سربراہ کہتا ہے! ”اگر مجھے کبھی دو ایسے اشخاص میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے جو قلعی استحکام اور قابلیت میں برابر ہوں تو میں کسی بچپناہت کے بغیر اس فرد کو ترجیح دوں گا۔ جس میں اپنے کام سے نہیں کاولوں اور شوق نہیں تیار ہو۔“

یہ حقیقت ہے کہ ولوںے اور وارثی شوق کے بغیر دنیا کا کوئی کام زیادہ دریجک ٹھیک اور مکمل ہم آہنگی کے ساتھ انجام نہیں دیا جاسکتا۔ انسان کسی نہ کسی مرطے پر اپنا کرہاتھا ٹھالیتا ہے۔ ولوںے اور وارثی شوق ایک قدرتی ہمیزی ہے۔ انسان کی فطری ہنفی صلاحیتوں سے اس کا یقیناً کوئی تعلق نہیں۔ یہ وقت ذہن سے زیادہ جذبات کی گرفتی اور شدت اسے جنم دیتی ہے، تاہم ان دونوں میں اتنا رابطہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ہنفی ولوںے اور وارثی شوق کی صفت سے عاری ہو تو وہ اپنی خداداد صلاحیتوں سے بھر پور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ذرا سی غلط

تمام پر اگندگی دور ہو جائے گی، زہن کی تطہیر ہو گئی تو صحت مند خیالات کی نسوانہ کا عمل خود بخود شروع ہو جائے گا خیالات کی تطہیر کا یہ تجھے خاص سبز آراما ہے لیکن کامیابی کے بعد اس کے نتائج یقیناً پرے ہر بت ناک ہوں گے۔

### زندگی سے لطف اٹھائیے

مودہ کی خرابی یا بوریت کاررواناً آج کل فیشن بن گیا ہے۔ اپنے آپ کو اس کا شکار ہونے سے بچائے۔ کائنات میں آپ کی توجہ اور دلچسپی کے لیے ان گنت اشیاء موجود ہیں۔ ان کو مرکز نگاہ بنائیے، آپ کی یہ شکایات دور ہو جائیں گی۔ زندگی امید اور انتظار کا درس راتام ہے۔ مستقبل میں جو شاندار کامیابیاں آپ کے قدم چومنے والی ہیں ان سے کوئی آگاہ نہیں۔ وقتی مشکلات سے درگزر کر کے امید اور انتظار کے سہارے اپنی تمثاوں اور آرزوؤں کو زندہ رکھنے کی عادت ڈالیے۔ زندگی کو ایک دلچسپ فلم سمجھ کر اس کی جدوجہد میں حصہ لیں، آپ کے اندر ولادہ تازہ اور وارثی شوق کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔

### اپنے کام میں جذب ہونے کی عادت ڈالیے

اگر آدمی کو اپنے کام سے دلچسپی نہ ہو اور وہ ہمیشہ دوسرا چیزوں کے خواب دیکھے یا ان کے بارے میں سوچتا رہے تو آخر کار زہن پر اگندگی کا شکار ہو جاتا ہے اور صلاحیت کا رگھٹ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص کو اپنے کام یا پیشے سے واقعی دلی لگاؤ ہو تو وہ اسے لازماً پوری دل جھی سے انجام دے گا۔ اسی صورت میں چاہے کوئی کام کتنی ہی محنت و جانشناختی سے کروں نہ کیا جائے بلکہ جذبہ و شوق اور لگن میں بھی مترنگ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انکی جذبات کی شدت اور گرمی سے بالآخر اس کے

### صحت مند خیالات کو زہن میں جگہ دیجئے

یہ پہلا اصول نہایت اہم ہے آپ خود سوچئے جس زہن میں ہر وقت پر اگندا اور افرادہ خیالات سائے ہوئے ہوں۔ وہاں لوٹے اور وارثی شوق کا گزر کس طرح ممکن ہے۔ ایسے حالات میں یہ جذبہ دیر پا ٹابت نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے خیالات آپ کے معوالات اور شخصیت پر نہایت غیر محسوس طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مشہور ماہر نفیات ڈاکٹر دلیم جیبر کا کہنا ہے: انسان کا پچتھے یقین اور اعتقد اس کے خیالات کو علی ٹھلل دینے میں بڑی مدد کرتا ہے۔ یہ مسلسل حققت ہے کہ بیمار خیالات انسان کو بہت جلد روگی بنا دیتے ہیں اسی طرح جب تک آپ کے زہن میں لکھت خوردہ خیالات کلباتے رہیں گے آپ ترقی و کارمانی کی منزل سے کبھی ہم کنارہ ہو سکیں گے۔

ابن اسراس جذبے کی صحیح آبیاری اور شومنا کے لیے خیالات کی چھان پچک ضروری ہے۔ زہن کو اولین فرصت میں پر اگندگی اور پریشانی پیدا کرنے والے تمام خیالات سے چھکارا دلا دیئے۔ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آج ہی ایک قد آدم شیخ کے سامنے کھڑے ہو جائے اپنے ٹکس پر ایک تنقیدی نظر ڈالیے اور پھر اس سے مجازی ہو کر اس احساس کو زہن کی گہرائیوں میں اتارتے کی کوشش کیجئے کہ آپ دنیا کے ایک خوش قسم فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور فضل آپ کے ساتھ ہے اس نے آپ کو بہترین محبت، بے لوث دوست اور ایک ہنپتا سکراتا کہبہ قطعاً کر رکھا ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ رات سونے سے بیشتر ان خیالات کو ایک بار پھر زہن میں تازہ کر لیں۔ اس طریقے پر عمل پیرا ہونے سے رفتہ رفتہ آپ کے زہن کی

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

31

شمع بک ایجننسی

بذریعہ ادا سی سے نجات پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تھیک اسی طرح عمل کو اپنا کر اپنی ذات میں ولے اور وارثی شوق کا جذبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آدمی اگر چند ماہ تک مسلسل کی معااملے میں قصد اسی طرح کی سرگرمی اور شوق کا مظاہرہ کرتا رہے تو رفتہ رفتہ یہ عادت غیر معموس طور پر اس کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے، اس کے بعد اس کا ہر عمل بالکل نظری ہو جاتا ہے۔ اسے کبھی اپنی طبیعت پر جبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

### فرصت کے اوقات دلچسپ مشاغل میں بسر کیجئے

فرصت کے اوقات اچھی طرح گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کوئی دلچسپ مشغله اختیار کر لے۔ اپنی تفریحی افادیت سے قطع نظر ایک جدا گانہ اہمیت بھی رکھتی ہے۔ اچھی ہالی انسان کے شوق کو ہوادے کراس میں زندگی کی ترپ اور انکل بیدا کرتی ہے۔ اس کی مدد سے انسان کے لئے کائنات کی کسی شے کا حصول دشوار اور ناممکن نہیں ہوتا۔ اس شوق کا رنگ ذرا گہر اہو جائے یا اس میں کسی قدر رشدت آجائے تو وہ حقیقی ولول اور وارثی شوق بن جاتا ہے۔ ہالی کے انتخاب میں بے احتیاطی کام مظاہرہ نہ کریں۔ اسی ہالی سے دامن بچانے کی اشد ضرورت ہے جس کی تحریک یک لیک ہوادر پھر اسی طرح آپ کا سارا شوق و دوق بلیے کی طرح بیٹھ جائے۔ اس سے کوئی ثابت اور شوون تیجہ برآ نہیں ہو گا لیکن آپ کی صلاحیتیں اور وقت ضائع ہو گا۔

مشغله خواہ کوئی ہو، اسے قدرے سنجیدگی سے اختیار کیجئے اس کا تعلق اگر انہ کے اپنے پیشے سے ہو تو اس کی افادیت کی گناہ بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھئے، زندگی کو بہتر اور خوشوار بنانے کے لئے آپ کی طرف سے حقیقی کوشش اور جدوجہد کی جائے گی اس کا صلا اسی نسبت سے کم و بیش ہو گا۔ اپنی کوشش اور جدوجہد سے زیادہ سطھ کی تمنا دانی ہے۔ حقیقی زندگی کے حصول کے لیے ایک بار اپنی ساری تو اتنا بیان صرف کردیجئے پھر

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

30

شمع بک ایجننسی

دل میں حقیقی ولول اور وارثی شوق کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔

زراغور کیجئے تو اس طرز عمل کے اثرات آپ کو اپنے روزمرہ کے کاموں میں بھی بخوبی نظر آئیں گے۔ اگر آپ خلوص دل سے سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں یا جسمانی طور پر کسی خاص کام یا پیشے کے لیے موزوں نہیں ہیں تو لا کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکتیں گے۔ اسی صورت میں بہتر ہے کہ اپنا کام یا پیشہ فوراً بدلتیں، یعنی آپ کے لیے مفید رہے گا مختلف پیشوں اور صنعتوں میں اصلاح اور ترقی کی حقیقی گنجائش آج کے دور میں ہے، چند برس پہلے متفقہ تھی۔ ہر روز بے شمار چیزیں اور ایجادات منظر عام پر آتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ان سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا ہے؟

اس کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ آپ اپنے پیشے یا کام کے بارے میں کتنے مغلص اور پرشوق ہیں۔ مجھے ایسے کافی افراد کا علم ہے جو کبھی ایک معقول مزدور یا کلرک ہو کرتے تھے لیکن آج بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں ان کی ترقی کی وجہاںے کام اور پیشے سے دلی لگاؤ ہے۔ اس لگاؤ نے ان کی ذات میں حقیقی ولول اور وارثی شوق کا جو جذبہ بیندار کیا، اس کی بدولت وہ ہمیشہ پوری تندی سی اور جانشناختی سے اپنے کام میں مصروف رہے۔ یقین کیجئے آگر آپ کے دل میں بھی اپنے کام یا پیشے سے دلی لگاؤ موجود ہے تو یہی ترقی اور کامرانی کل آپ کا مقدربھی بن سکتی ہے۔

### کام کرنے کا ڈھنگ بدلتیجئے

اپنی ذات میں ولول اور وارثی شوق بڑھانے کا ایک موثر اور بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان ہر کام اس انداز اور ڈھنگ سے انجام دینا شروع کر دے، گویا وہ اس کے بارے میں بے حد جذبائی اور مغلص ہے۔ نفیات کا ایک مسلم اصول یہ ہے کہ ادا سی اور افرادگی کے عالم میں جھوٹ موث خوبی اور سرت کا اظہار کر کے انسان

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول  
دیکھئے زندگی کی ساری کامیابیاں اور کامرانیاں کس طرح آپ کے قدموں میں آکر  
ڈھیر ہوتی ہیں۔

33 خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

کران را ہوں پر جمل لکھتے ہیں جو ہمیں کہن اور ہی پہنچا دیتی ہیں، اگر کوئی شخص یہ  
چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا باپ بنے لیکن وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی دقت نہیں تھا اس  
کے کاموں اور اس کی باتوں میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں لیتا تو ہم دوقت سے کہہ سکتے ہیں  
کہ اس کے پیش نظر کوئی اور ہی متفقہ ہے، اس کا نصب احسن ایک اچھا باپ بنن کر  
دکھانا نہیں ہے اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اس کی زندگی کا مقصد ایک بہت عظیم  
معنف اور انداز پر ادا بننا ہے اور وہ اپنا یہ شر و قلت بیکار مشکلوں میں صرف کرتا رہے تو یہ  
کیے گئے ہے کہ وہ اپنے نصب احسن کے حصول میں کامیاب ہو جائے۔

یہ یقین ہے کہ جن چیزوں کو ہم دل سے پسند کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس  
بہت بہت سعادت نکل آتا ہے اور ہمیں کسی یہ دلکاشت نہیں کرنی پر تی کہ ہماری تو قسم  
جو باپ دے سکتی ہیں۔ اگر آپ بہت شاکی کامنہ کیتے ہیں تو آپ سمجھ لجھے کہ آپ کا  
لاشمور آپ کو پوری چوری کی اور ہی منزل کی طرف گھنٹھ رہا ہے۔ جب آپ کا شعور اور  
لاشمور باہمی کلکش میں جھلا ہو جاتے ہیں تو آپ جلد ٹھک جاتے ہیں، اپنی قوت کو  
دانشمندی سے استعمال کرنے کے لیے اپنے شعوری اور لاشموری مقاصد کے درمیان  
ہم آہنگ پیدا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔

اپنے آپ سے سوال کچھ کرو کہ وہ کون ہی دلچسپیاں ہیں جن کی طرف آپ سمجھیگی  
سے کچھ ٹھے جاتے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ  
پرکشش ہیں؟ کن پنگاموں میں آپ اپنے دقت کا زیادہ حصہ صرف کرتے ہیں؟ ایک  
چارٹ بنائے چیز میں بخت بھر کی رو رواج کھنتے کہ آپ نے کام پر لگائے؟ وہ کام جو  
آپ نے سمجھیگی سے کیا اور جس پر آپ نے اپنے دقت کا غیر معمولی حصہ صرف کیا،  
وہی آپ کا اصلی اور لاشموری مقصد حیات ہے۔  
ذاکر محدث فراہم کی دلچسپیوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انسان کے پوشیدہ

## آپ بھی ایک عظیم شخصیت بن سکتے ہیں

آج سے ستر سال پہلے کی بات ہے ایک معمولی خاندان کا گیارہ سالہ بڑا اپنے  
ساتھی سے کہہ رہا تھا۔ ”میں ایک دن اپنے ملک کا حاکم ہوں گا۔“ اس کا ساتھی حکلھلا کر  
پس پڑا۔ ”یہ کیسے ممکن ہے؟ تم جماعت کے کمرے میں بھی سوتے رہے ہو اور ایسا معلوم  
ہوتا ہے کہ جماعت کے کمرے کے باہر بھی تم خواب دیکھتے رہے ہو۔“ نہیں، تم  
دیکھ لیتما، ایک دن میں تمام احیارات کا مالک ہوں گا۔“ وقت گزرتا رہا۔ حدادیہ تھیور  
پندرہ ہوتے رہے، وہ لڑکا اپنے مقصد کے لیے شب دروز کام کرتا رہا اس میں دیوانوں کی  
سی جرمات تھی۔ وہ جان پر کھل کر اپنے لیے رہ ہوا کرتا رہا اور پھر ایک دن ایسا آیا جب  
وہ لڑکا جو رہاب جوان ہو چکا تھا ایک بہت بڑی سلطنت کا فرمان رہا۔

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اتفاقی حدادیہ ہے۔ جن کی بدولت کوئی گرتا ہے اور کوئی  
الحتا ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل اٹھ زندگی کی تمام کامیابیاں اس امر سے ملک  
ہیں کہ آپ کا نصب احسن کیا ہے اور آپ اس کے لئے کتنی بھج دو دکرتے ہیں۔ یوں تو ہر  
انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی نصب احسن ہوتا ہے لیکن زندگی کی عظمیں اسے ملتی ہیں  
جس کا نصب احسن عظیم، ارش اور جاندار ہوتا ہے دراصل مقصد حیات کا تھیں ہمارا لاشمور  
کرتا ہے۔ لاشمور میں نصب احسن بھتار چاہا ہو گا اتنا ہی شوق دلوں شدید اور غوال ہو  
گا۔ ہر شخص ایک رداہ پر جھاتا ہے مگر وہ نہیں جانتا کہ اس کی منزل مقصود کیا ہے۔

ہم ایک تین مقصود کے حصول کے لیے قراردادی اور شعوری طور پر جدد جہد  
نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، ہم اپنے اصلی مقاصد سے بہت

شمع بک ایجنسی 35 خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

فوراً سمجھ گیا۔ ایک ٹلماتی کیفیت کے زیر اثر اس کے وجود ان نے اسے بتایا کہ وہ ذاکر بننا چاہتا تھا۔ اس کا یہ علم اور یقین اس قدر مکمل تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے اس پر نہ کہ نہ ہوا۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی اور وہ اسے غور سے سن رہا تھا۔ کہیں برس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کے اشبور نے اس کے لیے ذاکری کا پیشہ کیوں مجھ رکھا تھا، وہ اس لیے کہ بھی پیشہ اس خاص مقصد کے لیے سب سے موزوں تھا۔ جو کہ اس کا حقیقی نصب اعین تھا یعنی جسی نفیات کے بارے میں کتابیں لکھنا۔  
نصب اعین کے لیے تپ تو پیدا کجھے۔ جب تک آپ اپنے مقصد کے لیے دیوانے نہیں ہوں گے کبھی بھی آپ کی خواہش بالکل بے جان ارادے کی کی ہے جو کسی وقت بھی شک و شے کی آندھیوں میں دب سکتی ہے۔ اگر آپ منہماںے مقصود کو چشم صور سے نہیں دیکھ سکے اور خواہش کی چنانگی بھڑک کر شعلہ نہیں بن سکی اور ائمۃ پیشے سوتے جاتے آپ کا مطہر نظر آپ کے سامنے نہیں ہے اور اگر اپنے وقت کا پیشہ حصہ آپ مقصد حیات کی خواہش کو استوار کرنے میں صرف نہیں کرتے تو آپ یقیناً کامیاب نہیں ہوں گے اپنے نصب اعین کو اور ہننا بچوں ہوں گے۔

اپنے مقصد کا تصور آپ کے ذہن میں رچ جائے تو سمجھ لجئے آپ عروں کا مرانی سے ہمکار ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ مقاصد کو لکھ لیا جائے جو بات احاطہ تحریر میں آجائی ہے وہ ذہن پر زیادہ دیر پا نقش چھوڑتی ہے۔ ان فلمینڈ کیے ہوئے مقاصد کو کنی بار پڑھیے، اگر ممکن ہو تو ہر روز صبح و شام چند منٹ کے لیے اس مقصد عظیم اور اعلیٰ نصب اعین کو دہرا لجھے لکھے ہوئے الفاظ آٹا شیں صورت اختیار کر کے آپ کے دل میں اتر جائیں تو جان لجھے آپ کی خواہش استوار ہو گئی، آپ کا مقصد آپ کو ضرور حاصل ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے اپنے آپ سے کہیے۔ ”میں اس نصب اعین کی خاطر ہر ممکن اور ضروری قدم اٹھاؤں گا اس کے حصول کے لیے جسم و جان کی ساری قوتوں

شمع بک ایجنسی 34 خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

محکمات کا پتہ لگایا جائے۔ ذاکر البرٹ شویزر نے اپنی تمام قوتوں کو افریقی باشندوں کی فلاں و بہبود کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کے بعض دوستوں نے اس کے مقصد حیات کو ناقابل عمل اور محکمہ خیر قرار دیا اور کہا کہ ذاکر شویزر کی مثال بالکل اس کی جریل کی سی ہے جو دھڑاڑتی اور آگ بر ساتی تو پوس کے سامنے اپنی اکلوتی را تلف لے کر مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ آپ دوسرے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیوں نہیں کرتے کہ وہ میدان میں آئیں اور افریقہ کے حصیوں کی مدد کریں؟ آپ اکیلے اتنا برا کام کیسے کر سکتے ہیں؟

لیکن ذاکر شویزر سمجھتا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اسے اپنے نصب اعین کا بخوبی علم تھا، چنانچہ وہ اپنے عظیم مقصد میں کامیاب ہوا۔ اس نے افریقے کے پہمانہ سیاہ رنگ اور سیاہ بخت لوگوں میں علم کی شمع جلانی جو ماحول کو روشنی پہنچ رہی ہے۔ اگر ہم شدت کے ساتھ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو وہ واقعی میں مل جاتی ہے اور اگر ہم نے کسی چیز یا رہتے کی خواہش تو کی اور وہ نہیں نہیں سکتا۔ یقین سمجھ کے ہماری خواہش میں کسی رہ گئی تھی۔ ہم نے اپنے دل اور جان کی تمام قوتوں کو اس کے حصول کے لیے استعمال نہیں کیا۔ چشم تصور نے اس عظیم شخص کا خاکہ ہی تیار نہیں کیا جو آپ بننا چاہتے تھے، اس لیے آپ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے، آپ کی خواہش اس قدر کمزور تھی کہ وہ دوسری دلچسپیوں اور کسی اور گھنی مقصد کا حکماہ رکورہ رکھتی۔

اپنے دل کی آواز کو غور سے سینے، یہ آپ کو خواب میں سائی دے گی، آپ بیٹھے بیٹھے لہو شہ ہو جائیں گے جیسے وہ ایک روز کام سے اکتا کر ایک نیچ پر لینا ہوا تھا اور ایک معمولی سی کتاب پڑھنے میں مستغرق تھا۔ لیٹ کر پڑھنے میں اسے ہزارہ آتا تھا اور تو جو بھی مرکذن رہتی تھی۔ یہ ایک شخص کی زندگی کی کہانی تھی۔ کتاب پڑھنے پڑھنے وہ دفعتہ چوک گیا جلکی طرح اٹھا اور ادھر ادھر چکر لگا نے لگا، اس کی مٹھیاں بھٹک لیں وہ

شمع یک اینجنسی 37 خود اعتمادی بزهانی کے 12 اصول

تمریز کر..... یہ تحریر کامیاب ثابت ہو رہا ہے اور عادی مجرموں کی تباہ شدہ شخصیت کی قسم میں بہت حد تک مشوہر ثابت ہو رہا ہے۔

خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ قیدیوں کے ضمیر کو ان کے لاشور کے ذریعے متاثر کیا جا سکتا ہے اور ان کی غیر سماجی حرکات اور معاشرہ اور انسانیت سے نفرت کے جذبات کو بدلنا جاسکتا ہے اور ان کی قتوں کو اچھے مقاصد کی راہبوں پر لگایا جاسکتا ہے۔ اگر آپ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہے ہیں تو یقیناً اپنی لاشوری قوی کو غلط راہبوں پر لگائے ہوئے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کی قتوں کو مجرمانہ مقاصد پر نہیں لگایا گیا، لیکن یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ آپ نے اپنی لا محمد و طاقتوں کو دقت ضائع کرنے والے کاموں پر صرف کیا جو نبنا اتنے مفید نہ تھے جتنے آپ کے اعلیٰ مقاصد، جو یقیناً زیادہ قابل ستائش ہو سکتے تھے۔ اس لیے کیوں نہ آپ اپنے لیے کوئی اعلیٰ اور ارفع نصب الین منتخب کریں اور اپنی ساری قتوں کو اسی پر مرکوز کر دیں۔ رہنمائی کے لیے خدا سے دعا کریں۔ جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح اور مناسب ہے اور خدا کی نظر میں پسندیدہ ہے تو آپ بے خوف و خطر، کوئی اندر ویں کوشش کے بغیر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

نظر، کی اندر وی سے ملے۔ میرے بیٹے پر اپنے معین نصب ایمن کے لیے کام کرتے رہے اور خدا سے اپنی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہے۔ دعا سے آپ کو ہفتی اور قبضی طہانتی اور سکون حاصل ہوا۔ دراصل بھی احساس کر آپ کسی ایسے کام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جس سے خدا نخوش ہوتا ہے آپ کی صلاحیتوں اور قوتوں کو ہمیز لگاتار ہے گا۔ گھنیا فلم کے مقاصد بھی اگر چہ لوگوں سے حرمت الگیز کام کروالیتے ہیں، لیکن قلب و ضیر کے کسی نہ کسی گوشے میں ایک خلش موجود رہتی ہے اور یہ خلش آپ کی قوتوں کو اہمتر آہستہ آہستہ دیک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ ماہرین سے رجوع کیجئے۔

شمع بک ایجنسی

سے قائم ہوں گا، مس قدر مر بانیاں دینی پڑیں، دیتا چلا جاؤں گا۔

جب اپ ان الفاظ کو بار بار دہرا میں گے تو خواب میں بھی بھی کبھی آپ کا مقصد سینا اسکریں پرا ہم تے ہوئے الفاظ کی طرح آپ کے ذہن پر روش حروف کی صورت میں کندہ ہو جائے گا۔ کبھی ایک تصویری سامنے آئے گی جس میں آپ اس حالت میں ہوں گے کویا آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہو چکا ہے آپ کی کیفیت اسی شخص کی کسی ہو جائے گی جو مجنون ہو گیا تھا جس کو پتے پتے پر اپنے منجعاً نظر کا نام لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ اگر آپ اپنے لاشور کو یہ یقین دلادیں کہ آپ واقعی کسی ایک مقصد کے لیے دیوانے ہو رہے ہیں تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ وہ آپ کے لیے کام کی فکر میں ہو گا کہ کس طرح آپ اپنی منزل مقصود کو پہنچیں گے۔

کیا آپ لاشور سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ کا شعور ان اجزاء کو کسی نظم میں نہیں پوچھتا جو آپ کی قوت کو تنزہ دل کرتے ہیں، لیکن آپ کا لاشور یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو باقاعدہ قوت کی ضرورت پڑتی ہے تو لاشور آپ کو مہیا کر تارے گا۔ بشرطیکہ آپ اسے یہ یقین دلادیں کرایک ایسا مقصد آپ کے پیش نظر ہے جس کی تکمیل آپ کو اتنی ہی عزیز ہے جتنی کی اتنی حاں۔

ڈاکٹر فراہم نے لاشور کے سب سے گہرے حصے کا نام (۱۵) رکھا تھا۔ جس کے  
حقیقی میں قوت کا لا تناہی خزان جو ہر وقت متغیری رہتا ہے۔ ہر وقت قوت کا مطالبہ کرتا  
ہتا ہے۔ ہماری قوتوں کو ایک خاص لمحہ پر گانے میں لاشور کا اتنا برا حصہ ہے کہ  
کیلیفورنیا کی ایک جیل میں قیدیوں کے سرہانے شیپ ریکارڈ کے ہوئے پیغام نشر  
کرنے والے چھوٹے چھوٹے آلات لگے ہوئے ہیں۔ ایک نہایت زم اور پیشی آواز  
مر قیدی کے کان میں سرگوشی کرتی ہے۔ ”سن اے میرے دل، میری رود، میرا رکھ  
محبت اور ہمدردی میرا نہ ہب ہے..... ماضی کو بھول جا..... مستقبل کے لیے منصوبہ

## شمع بک ایجننسی

ہیں اور پھر اسی کے لیے آپ کی افتاد طبع بھی میلانات لیے ہوئے ہے تو آپ جان لیتے ہیں کہ کس طرح اپنی قوتون کو اس خاص کام کے لیے لگایا جاسکتا ہے۔

اگر آپ کا کام اس نوعیت کا ہے کہ آپ کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کا مکمل استعمال ممکن نہیں تو آپ جلدی آتا جاتے ہیں اور یہ اتنا تھت تکان کا روپ دھار لئے ہے، آپ سوچنے لگتے ہیں کہ آپ کی قوتیں اتنی کم اور حرقیر ہیں کہ اس کام کے لیے ناکافی ہیں، چنانچہ آپ آہستہ آہستہ ناکامی کی طرف پھسلنے لگتے ہیں۔

## اپنے مقاصد کی درجہ بندی کیجئے

اپنے مقاصد کو لے عرصے کے مقاصد، درمیانی عرصے کے مقاصد اور فوری مقاصد میں تقسیم کر لیجئے۔ لے عرصہ کا مقصد کسی ایسی ہم کو بتائیے، جسے آپ بہت پسند کرتے ہوں۔ اس طرح آپ کو صحیح رخ پر بینے کی قوت مل جاتی ہے۔ پانی کے دھارنے کے ساتھ بہنا آسان ہے۔ کسی ایسے کام کو اپنا مقصد حیات بنالیتا جسے آپ سخت ناپسند کرتے ہوں اپنی قوتون کو ضائع کرنے کے متراوف ہے۔

والدین اور اساتذہ بعض اوقات ہمیں بالکل غلط باشیں سکھا دیتے ہیں۔ ہمیں اکثر سکھایا جاتا ہے کہ اپنے آپ پر بسط کرنا یعنی عقل مندی ہے اور لظم و بسط کے حصوں کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کرنا سکیں جیسے جس کو ہم ہمیشہ فترت سے دیکھتے رہے ہیں۔ لیکن زندگی کا اصل مقصد خوشی ہے نہ کر رخ۔ ایک ہوش مند بالغ مرد اور گورت کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس میں خوشی محسوس ہوتی ہو۔ اگر آپ کی زندگی کسی ایسے کام کے لیے وقف ہو جسے آپ ناپسند کرتے ہیں تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے اور آپ کی حالت قابلِ رحم ہے۔

ڈاکٹر ولیم مارشن اپنی کتاب "جینے کی کوشش" کیجئے میں لکھتے ہیں کہ

## شمع بک ایجننسی

اگرچہ آپ کا لاشور آر کش صحیح مقاصد کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے لیکن آپ کا لاشور اتنا بیدار ہوتا چاہیے کہ آخری فیصلہ کرنے کی الہیت اس میں بدرجہ اتم موجود ہو۔ مغربی ممالک میں لوگ بسا اوقات ان معاملات میں یونیورسٹیوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ماہرین نفیسیات سے رابطہ قائم کر کے اپنے صحیح پیشے کا تعین کرتے ہیں۔ آپ کی قابلیتوں، قوتون اور پیچیدگیوں کا تجربہ گاہ میں گھرہ جائزہ لیا جاتا ہے۔ آپ کا لاشور آر آپ کو بتائے گا اور آپ کو دائیں وجدانی کیفیت کے زیر اشواوری آواز آئے گی اور آپ کے چھپے ہوئے مقاصد حیات کو جاگر کر کے آپ کے سامنے ایک واضح بخل میں پیش کر دے گی۔ پھر آپ کی تمام قوتیں اس آواز کی رہنمائی میں آپ کو آگے ہی آگے لے چلی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک روز آپ کی منزل آپ کے قدم چوڑے گی۔

ڈاکٹر یو لاک ایسل جس نے نفیسیات پس پر کی شہر آفاق کتابیں لکھ کر بڑا نام بیدار کیا ہے۔ اس کی بھجی میں نہ آتا تھا کہ وہ کس پیشے کا انتخاب کرے۔ وکالت، مدھی رہنمائی وغیرہ کا مبلغ بنا، مگر بر جگہ دل اچاث ہوا، اور ماہرین کے مشورے اور تجربات آپ کی قوتون کو ایک خاص راہ پر لگانے میں بے حد معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یوں سمجھتے کہ آپ ایک تاریک کرے میں ہیں آپ دیکھنیں سکتے کہ اندر کیا ہے؟ لیکن جو نبی آپ روشنی کرتے ہیں تو سارا کمرہ منور ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کرے میں کیا کچھ ہے فرنپیچ کس قریبے سے رکھا ہوا ہے۔

تجربہ گاہ میں آپ کی قوتون اور میلانات کا جو امتحان ہوتا ہے اس کے بھی فائدے ہیں کہ آپ کے ذہن کے ڈرائیک روم کا فرنپیچ بدلانیں ہے، صرف یہ جان لینے کے بعد ظاہر ہے کہ آپ اسے بہتر طریقے سے استعمال میں لا تے ہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ ایک مخصوص شعبہ حیات کے لیے قابلیتیں رکھتے

شمع بل ایجنسی خود اعتمادی بزہانے کے 112-ویں  
41 خود اعتمادی بزہانے کے 112-ویں

خیال رکھئے۔ جوں جوں آپ کی آمدی بڑھے گی، آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوتی چلی جائے گی اور تو توں کا نسبتاً برا حصہ کام میں لگادینے کی خواہش پیدا ہوگی۔ جس طرح بعض کپنیاں ملازم میں کو انعام دیتی ہیں تا کہ ان میں مزید کام کرنے کی خواہش پیدا ہو، اسی طرح آپ بھی ہر منعہ کے مقصود کے حصول اور کامیابی کے بعد اپنے لیے ایک انعام مقرر کر لجئے۔ کبھی تفریح کے لیے کسی دوسرے مقام پر چلے جائے اور بھی نئے کپڑے خرید لجئے۔ تعلیقی کام اور توجہ طلب امور کے لیے ایسے اوقات منتخب کئے جائے جب آپ کا زہن تازہ ہو۔ جب آپ جسمانی طور پر تنگ ہوئے ہوں یا اعصابی کھنچاؤ کے شکار ہوں تو آپ کا زہن بھی تحکم جاتا ہے، سونپنے کی وجہ سے قوتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔

### مناسب وقوفوں کے بعد اپنے مقاصد کا جائزہ لجئے

ڈاکٹر مارٹن کو ایک مرتبہ ایک ایسے آدمی کی کہانی سنائی گئی۔ جس نے چار سال کی محنت کے بعد اپنے ہنے ہوئے میدان کو خیر باد کہدا دیا! اتفاقی؟ ڈاکٹر صاحب دفعۃ بول اٹھئے۔ میں ایسا بھی نہ کرتا۔ اگر آپ بھوکے مر رہے ہیں تو قوتی طور پر کوئی اور وسیلہ روزگار تلاش کر لجئے مگر اپنے منتخب شدہ میدان میں کوششیں جاری رکھنے میں ممکن ہے کہ چار سال کی محنت کا پھل ملنے ہی والا ہو۔ کبھی کبھی مقاصد بدل بھی جاتے ہیں لیکن جس بات کو بھیشہ پیش نظر کھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ آیا آپ کی خواہشات کبھی بدل گئی ہیں اگر اپنے مقاصد حیات کو بدل لینے کا خیال آئے تو بار بار سونپنے میں ممکن ہے آپ کار زار حیات میں ایک سطح ترقی سے گزر رہے ہوں، جب آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ یونہی عارضی طور پر دشکتہ ہو گئے ہوں گھبرائے نہیں اور ہمت نہ ہاریے۔ پوری قتوں کے ساتھ کام کرتے رہیے بالآخر آپ کامیاب ہوں گے۔

شمع بل ایجنسی خود اعتمادی بزہانے کے 12 اصول 40 خود اعتمادی بزہانے کے 12 اصول

"ایک زمانہ تھا جب وہ کانگ کے طالب علم تھے۔ اس زمانے میں وہ سنجیدگی سے خود کشی کے بارے میں سوچا کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے اگر کسی ایسے کام کو کیا جائے جس سے نفرت ہو اور جو نہایت مشکل معلوم ہو۔ زندگی اس قدر اندر ہناک ہو گئی تھی انہوں نے ہائیڈرینک ایمڈ خریدا اور اپنے آپ کو ختم کر دیئے کافیسلہ کر لیا، لیکن خود کشی سے قبل انہوں نے شماہی امتحان دیئے کا ارادہ کر لیا۔ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کس بری طرح اور کتنے کم نہر لے کر ناکام ہوتے ہیں۔ تمام مضامین میں ان کے بہت ای کم نمبر آئے، سو اے قدیم فلسفے کے پرچے کے جس میں ان کو درجہ اول میں رکھا گیا تھا۔ یہ وہ پرچھتا جو ایک نہایت اچھے استاد نے پڑھایا تھا۔ اسے اس مضامون سے استاد سے اتنی محبت تھی کہ پڑھا ہوا ایک ایک لفظ بغیر کسی محبت اور پریشانی کے زبانی یاد ہو گیا تھا۔

امتحان کے نتائج سے ولیم مارٹن کی صلاحیتوں کو ایک مہیگی اور انہوں نے قدیم فلسفے پر تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ شوق بنوں کی حد تک بڑھ گیا اور وہ ڈاکٹری ڈگری لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جسے آپ نہایت آسانی سے کر سکتے ہیں اور جو آپ کے لیے باعث سرست بھی ہے تو آپ کیوں اسی کام کو روزی کا ذریعہ نہیں ہناتے؟ اگر آپ میں اتنی محبت نہیں کہ نہایت مشکل کام کو خیر باد کہدا دیں تو خدا کے لیے اس کو پسند کرنا سمجھا۔ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھنے اس میں دلچسپی لینے کی کوشش کیجئے۔

### مالی منصوبہ بنندی کرنا سمجھے

بچپن سال کی عمر میں آئندہ پدرہ سال تک کام منصوبہ بنائیے، آپ دیکھیں گے کہ سال بھر کے اختتام پر آپ کے پاس اتنا درپیچہ ہو گا جس کا آپ کو اندازہ بھی نہ تھا۔ ہر سال کے اختتام پر اپنے ٹیکے میں اپنی ترقی اور مالی امکانات کا جائزہ لجئے معیار زندگی کا

میں ڈوب جاتا۔ پھر دفعتہ کھانتا ہوا ایک سگر یزہ اٹھا کر اسے بڑے غور سے دیکھتا اور یکبارگی اسے بڑے پر اعتماد انداز میں نیچے سمندر میں پھینک دیتا، اکثر آس پاس کھلتے ہوئے نیچے اس کی بظاہر بے معنی حرکت بڑی تجویز کی نظر وہ سے دیکھتے آخراً ایک دن ایک پچی سے نر بیگا کا وہ بیچاری بھائی کا نپتی دکڑ ہیو گو کے زندگی پیچی اور کہا۔ ”بابا آپ روزانہ سمندر میں پھر کیوں چھینتے ہیں؟“ اس شکست حال دانشور نے خاموش نظر وہ سے اس پھول ایک ٹکلفت گڑیا کی طرف دیکھا اور زیرِ بُل مسکرا کر کھانتے ہوئے جواب دیا: میری پچی، پھرنیں، میں تو صرف اپنے احساس مظلومیت کو سمندر میں چھیننے آتا ہوں۔“

دکڑ ہیو گو کا یہ عمل آج دنیا کے لیے ایک ایسا سبق ہے جس کی افادیت سے کبھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اپنا احساس مظلومیت ایک سگر یزے میں سوکر اسے اپنے ہاتھوں سمندر میں غرق کر دینا گویا اس ڈنی خلجان سے نجات حاصل کرنا ہے جس کا ایک زمانہ شاکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو زندگی کی انگلت کھوتوں کے باوصاف اپنے اپنے رنگ میں احساس مظلومیت کا خکار ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے معاشرتی اقتصادی اور سیاسی چلن میں الجھنوں کے بھانے تراش کرائی ذاتی مظلومیت کا جواز تلاش کرنے میں سرگردان رہتے ہیں۔

ہمارا یہ غیر شعوری انداز ہر چھوٹی کی چھوٹی اور بڑی سے بڑی باتیں یعنی صبح کی گاڑیوں کی بے قاعدگی سے لے کر اٹھی جتابی کے ہولناک خطرے تک برابر مٹاڑ ہوتا رہتا ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ ہم خواہ ٹوواں ہونی مخالفات، بے جان خطرات، جدبائی سر اسکی اور تہذیبی ارتقاء کی فطری کٹکش سے نالاں میں۔ ذرا سوچنے پر انداز فکر کس قدر جتاب کہے۔ ایک ذی ہوش اور باشعور انسان کے لیے مظلومیت کا احساس سب سے بڑا روگ ہے کیونکہ یہ سراسر اس کی اخلاقی گروٹ اور ڈنی پسپائی کا آئینہ دار

## چشم تصور سے اپنے آپ کو کامران دیکھئے

ایک داشمن نے لکھا ہے۔ ”جو شخص دولت کی ہوں رکھتا ہے مگر ہمیشہ فربت کے خواب دیکھتا ہے، جسے ہمیشہ اپنی قابلیت اور قوت پر نیک رہتا ہے وہ یقیناً کبھی بھی دولت حاصل نہیں کر سکتا۔“ آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں اس کا تصویر میں خاکہ تیار کرتے رہیے۔ آپ نے جہاں پہنچا ہے اسے چشم تصور میں دیکھتے رہیے اپنی توتوں پر اعتماد رکھیے آگے بڑھتے رہیے۔ آپ یقیناً مقاصد حاصل کر لیں گے۔ تمناؤں کی خلک چھاؤں میں سوئے رہنے سے کام نہیں چلتا۔ آپ کو نصیح اعین سامنے رکھ کر اس کے حصول کے لیے ملگ دو کرنی چاہیے۔ آپ اس بات کا محاسبہ کرتے رہیں کہ تکنے قدم اٹھنے ہیں۔ ہر آنے والا دن آپ کے قدم کو آگے کی طرف بڑھانے والا ہو۔ زندگی میں پا مردی کے ساتھ جدوجہد کھجتے اور مردانہ وار آگے بڑھیں۔ اپنی خواہشوں کے خول میں بندہ رکر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔

## احساس مظلومیت

میں گزشتہ موسم سرما میں سیر و تفریح کی غرض سے جزیرہ جرس پہنچا تو مجھے سمندر کے کنارے ایک چھوٹی کی چنان پر پھیلتے ہوئے خود روپوں کی آڑ میں چھپا ہوا۔ ایک ٹونا پھوناٹی دکھائی دیا۔ آج سے کوئی سو برس پہلے جب عظیم مفلک دکڑ ہیو گو کو اپنی شدید عالت کے زمانے میں حالات کی نامساعدت کے باعث اپنے بیمارے وطن فرانس کو خیر پاد کھانا پڑا، وہ ہر شام غروب آفتاب کے ظارے کی خاطر تھکانہ چنان پر ریگ ریگ کر خاموشی سے اس نیچ پر آ کر بیٹھ جاتا اور اپنا بیوہ ہمار جھکاتے گھری سوچ بچار

خود اعتمادی بڑھاتے کے 12 اصول

44

شمع بک ایجننسی

ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ میں اپنے ملنے جلنے والوں سے بیگانگی پیدا کر دیتا ہے۔ اپنی ذات پر ترس کھانا انتہائی خوب غرضی کی علامت ہے اور اس قسم کی مظلومیت کے جال میں اٹھنے ہوئے لوگ کبھی دوسروں سے بچی ہمروں نہیں کر سکتے۔ صحافت کا پیشہ اختیار کرنے سے چند سال پہلے جب میں ولیز میں ڈاکٹری کی بریکلنس کرتا تھا مجھے کوئی ایک کان میں منتظم اعلیٰ کی مریض یوہی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا یہ شخص پر لے درجے کا باقوتی تھا اور مقامی چرچ کا پادری ہونے کی حیثیت سے اس علاقے کے باسی اسے اپنا اخلاقی معلم اور رہبر سمجھنے لگے تھے۔ اس کی بیوی نہایت خاموش طبع، وفا شعار اور ٹھیک گھر بیوی قسم کی سیدھی سادی عورت تھی جو شاید اپنی شدید علاالت کے باوجود کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتی تھی۔ میں نے بغور اس کا معافانہ کیا پتہ چلا کہ وہ جگر کے سرطان میں جلتا ہے۔ میں نے اس کے شوہر سے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کی بیوی چند دنوں کی مہماں ہے، یہ سنتے ہی جیسے وہ ترپ گیا اور اپنا سرکاری رتبہ، معاشرتی حیثیت اور مذہبی ذمے داری یکسر بھول کر اس نے غیر شعوری طور پر اپنے دل کی بات کہہ دی: ”اف سرمرے خدا یا ڈاکٹر، اگر یہ حق چیز دنوں میں چلتی تھی تو میرا کیا ہوگا۔“ یہ احسان مظلومیت نہیں تو اور کیا ہے۔ زندگی کے اس طیف بندھن کے نوٹے کے تصور ہی اسے صرف اپنے اوپر ترس آنے لگا جس کے دور رس خوفناک بتائی گئی صاف ظاہر ہیں۔

صحافت کے ابتدائی دور میں ایک مشہور جریدے کی خاتون ایڈٹر کبھی بکھار مجھے دوپہر کے کھانے پر بلایا کرتی تھی۔ اس کے خدوخال اور چہرے کا مجموعی تاثر براہ راست تھا۔ معمول تھوا کے علاوہ اس کے پاس ایک آر است فلیٹ اور اپنی کار تھی۔ صحبت کے اعتبار سے وہ بڑی تصدرست و توانا تھی اور اس کی نجی زندگی گھر بیوی ابھنؤں اور بھیروں سے بالکل پاک صاف تھی۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود اس کی باتیں سن کر معلوم ہوتا

45

خود اعتمادی بڑھاتے کے 12 اصول

تحا کہ وہ اس کرہ ارض کی بدترین مخلوق ہے۔ وہ اپنے جینے کے انداز سے سخت تباہ اور نالاں تھی۔ کبھی ملازمت کی مشکلات کاروں، کبھی صحت کے بارے میں جھوٹی تسویش۔ وہ اپنے بساپوں کے ہاں آئے دن کی دعوت کے ہنگاموں سے سخت عاجز تھی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے ذہنی اور جسمانی کوفت ہوتی خاص کر جب وہ اپنی خوٹگوار زندگی کو ایک چلتا پھرتا ناقابل برداشت عذاب کہہ کر پکارتی۔

در اصل اس کے حالات اور ماحول کے پیش نظر اس کی اس شدید برہنی اور زندگی سے کلکی نفرت کا کوئی جواز نہ تھا لیکن اس نے گہرے سوچ بچارے سے اپنی خالی مشکلات بڑھا چڑھا کر اپنے گرد مسلسل اذیت کا ایک ایسا مغضوب جالتان لیا تھا کہ اب اس کے لیے اس سے فرار قطعی ناممکن تھا اس نہیں کھلیتی اور روتنی ہوئی دنیا میں کوئی بھی ذی روح اس انسان سے زیادہ قابل رحم نہیں ہوتا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذاتی دکھ درد کی شدت اور سائل کی تلخی کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹروں کے مطب میں آئے دن ایسے مریضوں کی بھرمار رہتی ہے جو کہ اپنے ہوئے بار بار جیج چیخ کریے کہتے ہیں۔

”ڈاکٹر، میری طبیعت ہرگز اچھی نہیں۔“ میں بس اب ختم ہوا چاہتا ہوں۔ میرے لیے اس زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ میں اب جینا بھی نہیں چاہتا اور جی کر کر دوں گا بھی کیا۔ میں۔۔۔ یہ میں کی روشن درحقیقت انکی زندگی اتنا کی پکار ہوتی ہے کیونکہ اس قسم کے اعصابی مریضوں کی اکثریت محض احساس مظلومیت کے تباہ کن اثرات کی پیٹ میں آکر اپنی شخصیت کھو چکھتی ہے، دل و دماغ ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور ان کا انجر بخربھی بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ شک، شبادار خوف انسانی ترقی کے نمایاں دشمن ہیں اور اسی احساس مظلومیت کے اندر ہر دوں میں جنم لیتے ہیں اور بنی ہم ان کے آگے سرگوں ہوں یہ تھاری داشی صلاحیتوں گوشت پوست تھی۔ کہ روح نمک کو دیک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ ہم قدم قدما پر

شمع بلک ایجننسی خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

47

اپنے لصیب کو کوس رہا ہو گا لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہ بس اکھیوں کے سہارے ادھرا دھکوں پھر کر ایک بڑی سی میز پر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے لکڑوں کو اڑنے ترھے انداز میں آرستہ کرنے میں منہک ہے۔ میری آواز سن کرہہ مسکرا دیا اور کہنے لگا! بھتی، اب مصوری تو ممکن نہیں اس لیے میں نے بالکل نئے ذریع ان کی عمارتیں تعمیر کرنے کا مخصوصہ بنا لایا ہے۔“

آج یہی شخص انگلتان کا ایک نامور ماہر تعمیرات ہے اور سینے میرے قبے میں ایک اسی برس کی بڑھا رہتی ہے جو شہر کی اتفاقی موت سے صرف چھپیں برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ پانچ چھوٹے چھوٹے مخصوص پنجے اور کوئی مادی سہارا نہیں۔ دہ فوراً کام کا ج میں لگ گئی اور صرف اپنی خود اعتمادی اور صبر و جعل کے باعث پیشوں سے مسلک کرادی ہے میں کامیاب ہو گئی۔ جب میں نے اس سے اس کی بالا بھتی اور کامیابی کا راز پوچھا تو اس نے بڑے غرضے بلند حوصلہ کر کے کہا: ”میں نے کبھی کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنی حالت پر آنسو بہنا نہیں سیکھا۔“

دنیا میں ایسے ان گنت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی انتہائی بدھی نہیں کے باوجود احساس مظلومیت کے ایک بلکہ سے شابے کوئی قبول نہیں کیا، ہمیں کیلئے ہی کوئے لمحے ایک زمانہ اس لگڑی گنجی عورت کے اوصاف کا قائل ہے۔ رابرٹ لوئی اسٹینس نے اپنے موزی مرض تپ دق کو بالائے طاق رکھ کر ادب کے بہترین شاہکار تخلیق کیے، فادرڈ ٹپسن خود کوڑھے سر ترے مرتے بھی اس مرض کے شکار ملیضوں کا بڑی تعدادی سے علاج کرتا رہا۔ ایسے غیر معروف انسانوں کو بھی بے شمار تالیں موجود ہیں جنہوں نے مُھن اپنے تدبر، یقین، حکم اور سمجھیں سے اپنی لاعلاج بیماریوں، دکھ درد اور دوسروں سے دنیاوی مصالحت پر قابو پایا اور زندگی کی بے پایاں سرتوں سے سفر فراز ہوئے یہ بڑی سوچ بھجہ کی باتیں ہیں۔

شمع بلک ایجننسی

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

46

ٹھوکریں کھاتے گرتے ہیں اس اذیت ناک غور و فکر کی بدولت غیر شعوری طور پر خود اپنے اکھوں اپنا گلا گھونٹ لیتے ہیں۔ زندگی میں شادمانی اور کامرانی سے ہمکار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات کا پرچم بھیش اپنی ذات سے بلند رکھیں ورنہ کچھ عجب نہیں کہ ہم خود ایک چیز تھے کی طرح اس کے ساتھ لٹک کر رہ جائیں۔ بے لوث خدمت اور سمجھیم ہی کامیابی اور صورت کا پیانہ ہے اور ہم اپنی ذات کی بلند یوں تک صرف اسی صورت میں پہنچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں غنکوہ شکایت سے قطعی گریز کریں۔ اپنے حالات کے خلاف سر پیٹھے کی بجائے اپنی سوچ بوجہ سے آئندہ ترقی کا ذریعہ بنائیں تا کہ ہم اپنے اندر چھپی ہوئی ٹھوس قوتوں اور سر بلندی کے جائز امکانات کا بخوبی کھونج رکھیں۔ ہمیں اگر کسی مشکل کی حقیقی دشواری کا سامانا کرنا پڑے تو ہم اپنے حوصلے اور ہمت کو بروئے کارلا کریے تکلیف آسودگی میں بدل سکتے ہیں۔

یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اگر ہم اپنی قوت عزم سے کام لکھ کر صحیح خطوط پر سوچتا شروع کر دیں تو اتنا نی زندگی کی کوئی ایسی بندھی نہیں ہے جسے بالآخر ہم اپنے باوقار روئے اور صحت مند انداز فکر کی بدولت اپنے لیے سودمند نہ بنا سکیں۔ میری زندگی کا تجربہ اس بات کا شاہد ہے کہ یہ ایک ائمۃ حقیقت ہے۔

”میرا ایک نوجوان دوست جو دوسری جنگ عظیم سے پہلے مصوری میں غاصبانم پیدا کر چکا تھا ایک جرم سن بسار کے شعلوں کی زد میں آ کر اپنے لاکا طیارے سمیت دھوکیں کے پادل ازا جاؤالدن کے دبی ٹھانے میں گر کیا۔ اس کی دونوں ٹالکیں ٹوٹ گئیں اور کھوپڑی پر شدید رژم آئے۔ وہ دونوں آنکھوں سے محروم ہو گیا۔ جب ایک طویل عرصے بعد وہ موت سے دامن چھڑا کر اپنے تال سے رخصت ہو کر گھر آیا تو میں اسے دیکھنے کیا۔ میرا خیال تھا وہ لوٹکڑا اور اندر حاضر شخص پہلوں والی کری پر بیٹھا

شمع بک ایجننسی خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول 49

تشویشاں کا ماحول کے باوجود قدرت کے عطا کردہ نظاروں سہولتوں اور آسودگیوں کا تمہد سے اعتراف کریں۔

نور بصیرت میسر ہوتا کیا کچھ نظر نہیں آ سکتا۔ غروب آفتاب کا دلفریب منظر ستاروں کی جگہ ہے، سمندر کی رنگیں فضا کیں، موسم بہار میں معصوم کلیوں کی چک، رنگ برگنگ پھلوں سے لدی پھندی کیا ریاں اور گھاس کا تملین فرش۔ قدرت کے یہ: لب لھانے والے نظارے انسانی دل و دماغ کو سیراب کرنے کے لیے ہی تحقیق کیے گئے ہیں لیکن اگر ان تمام یاتوں کے باوجود ہم کسی احساس مظلومیت کا خدشہ محسوں کریں تو یہیں اس مفکرا عظم و ذہن ہی گوکی وہ سبق آموز اور سبق آمیز چنان والی رسم یاد کرنا چاہیے آپ اپنے سارے دکھ درد یکجا کر لجھے اور انہیں ایک ٹکریزے میں سوکر اپنی ساری قوت بروئے کار لائے اسے اپنے سے دور بہت دور پھینک دیجئے۔ یقین جانیے آپ کا سارا اذنی خلجان آنکھ جھکتے میں ہوئیں کی طرح اڑ جائے گا اور دل و دماغ کا یہنا کارہ بوجھ جھکتے ہی آپ یقیناً اپنے کو بلکہ اپنکا محسوں کریں گے۔

### جوائز مت پیش کریں

اگست 1981ء میں سوازی لینڈ (افریقہ) کا حکمران سیزو ادمون سال کی عمر میں مر گیا۔ وہ اپنی رعایا کے لیے اچھا تھا یا برا، میں کوئی رائے نہیں دوں گا۔ میں اس کے کردار کی ایک خوبی بتانے لگا ہوں وہ ایک عرصے سے بیمار چلا آ رہا تھا لیکن بستر عالات سے اپنے وزراء اور اعلیٰ افسران کو ہلا کر احکام جاری کرتا اور ان سے روپرٹیں کبھی لیتا تھا۔ موت سے چند منٹ پہلے بھی وہ حکام کے ساتھ اپنی مملکت کے امور پر باشی کر رہا تھا اس نے اچانک کہا کہ اس کا ذاتی ذاکر اور ورزی صحت بیٹھ رہیں ہاتی سب چلے جائیں۔ ان کے جانے کے بعد سیزو ادمون کے کھانا۔ میں جارہا ہوں۔

شمع بک ایجننسی خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول 48

قدرت نے آپ کو فکر و نظر عطا کی ہے۔ ذرا آپ بھی اپنے حالات اور دل کو کھنگا لیے اپنے گرد و پیش کا بغور جائزہ لجھے اور پھر یہ فصلہ آپ ہی کی مرضی پر تھصر ہو گا کہ آپ اپنی ذاتی صلاحیتوں کی موجودگی میں بھی احساس مظلومیت کی رو میں بہرہ کرائیں کار آمد، ہمیں کوہیہ بیٹھ کے لیے اتحاد تاریکیوں میں عرق کر دیں۔

ایک پرانی یوتانی کہاوت ہے کہ انسان کا طرز فکر ہی اس کی حقیقی شخصیت کا مظہر ہوتا ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات اور سخت مشکلات کے باارے میں غلط انداز فکر اختیار کرنا بڑا آسان ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں فرانس میں ایک جگہ دوست کے ساتھ اپنے پسندیدہ ہوٹل میں سر و تفریح کی غرض سے ٹھہرا ہوا تھا۔ ہم رات گئے باضیج میں فوارے کی پھووارے کے نیچے بیٹھنے سے لطف انداز ہو رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کائنات کی ساری چاندنی اسی گوشے میں سست کر آگئی ہے۔ موسیقی کی اطیفہ دھنسی میری بفتر اردو سے چھینٹ خانی کر رہی تھیں۔ اچاک جرس دھقاںوں کی ایک بڑی ٹولی آن دھکی اور ایک ایکی ان لوگوں نے ایک ہنگامہ سابر پا کر دیا اور وہ مہماںوں کو کندھوں پر اٹھا اٹھا کر ناچتے گاتے پھوپھو کی طرح اچھل کو کرنے لگے۔ مجھے ان کی نازی پا حرکت سخت نا گوارگری۔

لیکن میرا دوست جو ایک مجھا ہوا سرجن اور بڑا جہاندیدہ انسان ہے مسکرا کر کہنے لگا۔ ”ذرا سچو تو یہ لوگ ہتل کے جنگی دور میں آگ اور خون کے سمندر سے گزر چکے ہیں اور اب یہ اپنی انگلوں اور آرزوں کی راکھ میں چنگاریاں تلاش کرنے آئے ہیں۔ کیا انہیں اس طرح لطف انداز ہوتے دیکھ کر تم خوش نہیں ہوئے۔“ میرے دوست کا انداز فکر کرتا سمجھا ہوا تھا اور اس کے منہ سے کچی بات سن کر مجھے دل ہی دل میں اپنے غاصبانہ روئے پر سخت نہامت ہوئی۔ اپنے ذہن کو بہر حال احساس مظلومیت کی خوفناک اذیت سے محفوظ رکھیں اور موجودہ زمانے کی تجزیروی اور انہیاں

شمع بک ایجننسی خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول 51

کہا رے مسائل کا حل کم ہی ملتا ہے۔ راجہنامی نہیں ملتی۔ کوئی ایسا درود مندرجہ میں ملتا جو کام کی دو باتیں بتا دے۔ جس کے ساتھ بات کرو وہ یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ وہ ہم سے زیادہ مظلوم ہے اپنے مصائب کی داستان سداد تھا ہے۔ معاشرہ جیسا کیماں بھی ہے جو میں اسیں رہنا ہے اور اسی ماحول میں اپنی ذات اور اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ نو مینے بدمبا عرصہ ہوتا ہے۔ انسان تو مینے ماں کے رحم میں لگ رتا ہے۔ دہاں اسے ہاتھ پاؤں مارے بغیر غذا ملتی ہے۔ سکون ملتا ہے اور انسان گرمی سردی سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ماں اسے اپنی چھاتیوں سے لگایتی ہے، اپنے ساتھ لگا کر سلاتی ہے، آغوش میں لیے رکھتی ہے۔ بچہ براہوتا جاتا ہے۔ سوائے کھلنے کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، غذا ملتی رہتی ہے۔ آرام اور سکون ملتا رہتا ہے۔ اہمیت اور پیار ملتا رہتا ہے، سب کی وجہ ملتی رہتی ہے۔ بچہ لڑکپن بھی لگ رجاتا ہے اور جوانی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کے سامنے کارزار حیات آ جاتا ہے اسے اس میں کوڈتا ہے۔ کوئی راہ فراز نہیں لیکن انسان فرار کا راستہ نہیں تو فرار کا ذریعہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ لا شعوری طور پر واپس بچپن میں چلا جاتا ہے جہاں اسے جنم دار یوں اور مسائل سے آزاد تھا۔ جسمانی طور پر انسان روز مرہ زندگی میں سرگرم رہتا ہے مگر اس کا ذہن، بلکہ یوں کہتے کہ اس کی روح اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔

اس کیفیت میں انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ کوہاہی ایک مستقل عادت بن جاتی ہے۔ لذتیست ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ انسان کئی طریقوں سے لنٹ حاصل کرتا ہے۔ انحراف کا مرکب ہوتا ہے۔ ذمہ دار یوں اور حقائق سے بھاگتا ہے۔ لچر فلمیں دیکھتا اور اخلاق سوز کہا تیاں پڑھتا ہے۔ اسے ہنی لنٹ بدی سے حاصل ہوتی ہے اس لیے وہ اسی سے دل کھلایتا ہے۔ انسان کی عقل یہ تو سمجھتی ہے کہ یہ راست بدی کا ہے انسان کے اندر ایک ضمیر بھی ہے جو بدی کو قبول نہیں کرتا۔ اس کا در عمل

شمع بک ایجننسی خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول 50

ڈاکٹر نے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سیورا اسکریا، ایک ہاتھ الوداعی انداز میں اٹھایا اور وہ مر گیا۔ میں جب آپ سے کہوں گا کہ ۸۲ سال کا بیوی ہمارتے دم تک اپنے فرائض ادا کرتا رہا تو میرے بہت سے قارئین کہیں گے کہ وہ نامکن بنا سکتا تھا۔ اگر آپ ایسے کہیں گے تو میں کہوں گا کہ جی ہاں، وہ بادشاہ تھا۔ اسے بستر علالت پر کام کرنے کی کیا پڑی تھی۔ حکومت کے کام تو ملٹے ہی رہتے ہیں۔ اسے آرام کی ضرورت تھی۔ بادشاہ تو بیش اور آرام کرتے ہیں۔ اس بڑھاپے میں کون کام کرتا ہے اور یہ لوگ کام کرتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں اور جو یہاری کو کام نہ کرنے کا بہانہ نہیں کرتے۔ اپنا جائزہ میں لیکن دیانتداری سے آپ کو صاف نظر آئے گا کہ آپ کام چور ہیں۔ اکثر اوقات آپ اتنے زیادہ بیمار نہیں ہوتے جتنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ لا شعوری طور اپنی ذمہ دار یوں سے بچتے کا جواز پیدا کر لیتے ہیں۔

میں اس ضمنوں میں "جو اجاز پیدا کرنے" کے رجحان کی نشاندہی کر دوں گا۔ یہ رجحان دفتر کے کام سے جی چانے پا پڑھائی سے بچتے تک محمد دنیس، اور بہانہ صرف بیماری نہیں ہوتا۔ اپنی ناکامیوں کا اور حقائق سے مند پھرمنے کا جواز پیدا کرنے کا رجحان ہمارے ملک میں خاصاً زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی عکل و صورت اور اس کے رسم و رواج اور پابندیاں ایسی ہیں کہ کوئی اپنے ذاتی مسائل اور بچنوں کا کسی کے ساتھ کھل کر ذکر نہیں کر سکتا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر کوئی اپنے مسائل کو دوسروں کی نسبت زیادہ چیزیں سمجھتا ہے، اس لیے ہر کوئی بھی چاہتا ہے کہ اسی کی سنی جائے اور ہر کوئی اسی کا ہمدرد ہو۔

اس سے یہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ اپنی چہا بمالٹے سے نتائے میں تاکہ اپنے عزم و اقارب اور پڑوی آپ کو قابل ہمدرد سمجھیں۔ دوسروی وجہ جواز پیدا کرنے کی یہ ہے

شمع بک ایجننسی خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول 53

کرتے تو وہ کسی سے کہتا ہے میری ناگفی بیکار ہیں۔ اگر آپ ہنی میں ساکھیوں کو پھینک دیں تو آپ خود کہہ اٹھیں گے کہ آپ تو اچھے بھلے ہیں۔ بیساکھیاں بیکار ہیں۔ جواز پیدا کرنے کا مرض ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جو کتابوں اور علمیت کی دلدل میں جا چکتے ہیں۔ علم کے بغیر انسان ناکمل رہتا ہے لیکن علمیت میں ایک خطرہ ہے جو دراصل بعض انسانوں کی اپنی خرابی ہے کہ وہ کتابوں میں سے اپنی کو تاہم بینی، اخلاق سے اخراج اور اپنی غلط کاریوں کا جواز تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ کتابوں سے اس تصریح کی تائید حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے صحیح ہے۔ آپ علم کا سہارا لیں، الفاظ میں پناہ لیں، حقیقت کی شکل و صورت نہیں بدلتی۔ آپ کا اپنا حلیہ بدے پرتو ہوتا چلا گیا ہے اور آپ خود فرمی میں بتلارہتے ہیں کہ آپ جیسا داشمند کوئی ہے ہی نہیں۔ یوں میں آپ کوئی بار بتا کچا ہوں کہ اکثر لوگ در دن کا شعروں کو جن میں یا سیت اور ادا کی ہوتی ہے نظریہ حیات بنا لیتے اور آپ ہیں بھرتے رہتے ہیں۔

تو میں سطح پر بات کریں تو ہم چودہ سو سال پہلے کا دور یاد کر کے جھوٹتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ چودہ سو سال پہلے اور امام مہدی کے ظہور کے درمیان عرصے میں ہم بے عملی اور خود فرمی کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ عالم اسلام پر نگاہ ڈالیے۔ آپ میں لڑائیاں، کفار کی محتاجی اور بے ہمتی کا یہ عالم کہ یہودیوں کے آگے جما گے پھرتے ہیں جب افراد میں بے عملی، کم ہمتی اور جھنسی اخراج سے لذت حاصل کرنے جیسی قباقیں پیدا ہو جاتی ہیں تو قومِ دشمن کے آخر گھنٹے میکنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ افراد کے مجموعے کو ہی دشمن کہتے ہیں۔

اپنی ذاتی کیفیت کو دیانتداری سے دیکھیں۔ اپنی بے عملی کے حق میں جواز پیدا نہ کریں۔ تو میں سطح پر سوچیں۔ میں نے ان حضرات کا بھی رجحان دیکھا ہے جو تسلیم کر

شمع بک ایجننسی خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول 52

انسان کو بے چیزوں اور شرمسار کرتا ہے۔ زندگی کی راہوں سے بھٹکا ہوا انسان اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کوشش میں وہ اپنی غلط کاریوں کے حق میں جواز پیدا کرتا ہے۔ میں یہ مضمون ان خطوط کو سامنے رکھ کر لکھ رہا ہوں۔ جو ہمارے شعبہ طب و فضیلت کے نام آتے ہیں۔ مجھے ان تمام خواتین و حضرات کے ساتھ دلی ہمدردی ہے جو اپنے مسائل ہمیں لکھتے ہیں۔ ہم ان کے علاج پر پوری توجہ دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان میں صحت یا بیہی ہوتے ہیں جو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اخراج کے مرٹکب ہوئے تھے اور جو اخراج کا کوئی جواز پیش نہیں کرتے۔ انہی میں وہ بھی ہیں جو اپنے خود پیدا کردہ مسائل کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اور ہم انہیں جو پہلیات دیتے ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا۔ ہر کسی کے پاس صحیح سوریے نہ اٹھنے کا اپنا اپنا جواز ہوتا ہے۔ اس رجحان سے ایک اور رجحان پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے، ہر کام کو کل پر ملتوی کرتے چلے جاتا۔..... ”بُنْكَل سے صحیح اٹھوں گا اور دروڑش باقاعدہ کروں گا“ مگر وہ کل کبھی نہیں آتی۔ میرے یہ الفاظ اپنے ذہن میں نشش کر لیں۔ ”آج کا دن وہ کل ہے جس کے لیے آپ نے اپنے پروگرام ملتوی کئے تھے۔“

ایک عام جواز یہ ہے۔ ”آج مدد نہیں بنانے کل کی۔“ کام کرنے والے مودع کے پابند نہیں رہا کرتے۔ ایک جواز اور ہے جس میں تھوڑا اس اشتراک بھی شامل ہوتا ہے۔ مجھ میں قوت ارادی اور خود اعتمادی نہیں رہی ہیں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذمہ دار یاں قبول کرنے کو تیار ہیں، کوئی انہیں قوت ارادی اور خود اعتمادی تو دے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کی رائے ہے، یہ حقیقت نہیں۔ حقیقت کی کوئی حقیقت نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اسے قبول کر لیا ہے جب کوئی بیساکھیوں کا سہارا قبول

شمع بک ایجنسی خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول 55

آپ اس لیے نگاست خورده ہیں کہ آپ نے نگاست تسلیم کر لی ہے۔ آپ نے زندگی کو اداسیوں اور ناکامیوں کے ساتھے میں ڈھال لیا ہے۔ اسی کو آپ اپنا مقدر سمجھ بیٹھنے ہیں۔ ذرا رحمت کریں، آپ اس ساتھے کو بدلتے ہیں۔ زندگی نئے ساتھے میں بھی ڈھل سکتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ جو آپ اسے بنایتے ہیں۔ پارسا عبادت کو زندگی سمجھتا ہے۔ گناہ گاردنیا کو عیش و عشرت کا مقام سمجھتا ہے۔ کوئی پسے کو دین و دنیا سمجھتا ہے اور کوئی غریب پروری اور خیرات دینے کو جینے کا مقصد سمجھتا ہے۔ اگر آپ نے جینے کا مقصد اداس اور ناکام رہنا سیکھ لیا ہے تو آپ کو جھوولیاں بھر بھر کر اداسیاں اور ناکامیاں میں گی اور اول رہی ہیں۔ آپ نے یہی ماٹا چاہا، یہی مل رہا ہے۔ اٹھ کھڑے ہوں، اپنے آپ میں جوش و خروش پیدا کریں۔ ارادہ کر لیں کہ آپ نے ساتھ بدلتا ہے۔ اسی سے آپ کو دعوت حاصل ہو جائے گی جو کامرانی کی ضامن ہوتی ہے۔ آپ کاروباری صحیح منداور تعمیری ہو جائے تو یہی ایک دعوت اور تو انہیں جانتی ہے۔ میں نے ذرا سی بات کو اتنا زیادہ پھیلادیا ہے۔ بات اتنی ہی تھی:

اپنی کم بھتی، کوتاہی اور فرار کے حق میں جواز پیدا نہ کریں۔ اپنی لغزشوں اور اپنی کثر دربویوں کو تسلیم کریں۔ سہارے نہ ڈھونڈیں۔ قہنی بیساکھیاں پھینک دیں۔ رہنمائی حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ بہانہ سازی سے بچیں۔ عمل کو ملتوي نہ کریں ابھی کریں۔ نگاست تسلیم نہ کریں۔

### کامیابی کا لقینی راستہ

”بیتھو دن میں تم سے حاجز آپکا ہوں، اتنا عرصہ ہو گی تمہیں موسيقی کی ابجدتک نہیں آئی مجھے لیقین ہے کہ تم کچھ بھی نہ سیکھ سکو گے۔ قطعی ناکارہ اور کندڑ ہن ہو۔“ موسيقی کے استاذ نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا۔ بیتھو دن خاموش رہا۔ وہ بھی

شمع بک ایجنسی خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول 54

چکے ہیں کہ انحراف کا شکار ہو کر جسمانی اور نفسیاتی لحاظ سے تباہ ہو چکے ہیں اور وہ علاج کی ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن انہیں جب بتایا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو اور یوں کرو تو وہ اس میں کوتاہی کرتے اور کوتاہی کا جواز پیدا کر لیتے ہیں۔ ان میں ثابت قدمی ناپید ہے۔ بے عملی کا یہ عالم کو ہمارے ڈھونڈتے ہیں۔

کمی خواتین و حضرات ایسے ہوں گے جو تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ ان میں جواز پیدا کرنے کی عادت ہے۔ انہیں دراصل معلوم نہیں کیونکہ یہ سر جوان ذہن لا شعور میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ان کا ذہن لا شعور اپنے آپ کام کرتا ہے کی کوشش کے بغیر جھوٹا پچ جواز گھر لیتا ہے، چونکہ یہ عمل لا شعوری ہوتا ہے اس لئے انہاں اس سے برق سمجھتا ہے اگر آپ اپنی اس خاہی سے آگاہ نہیں تو اپنا جائزہ میں اور اس خاہی سے نجات حاصل کریں، کوئی مسئلہ آن پرے تو اس سے بجا گئے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کا سامنا کریں، اس کا حل تلاش کریں اور اس حل پر فوراً عمل شروع کر دیں۔

اس اصول کو اپنا ماؤ بنا لیں۔ ”ابھی“..... اگر آپ ابھی نہیں کریں گے تو یہ کام کمی نہیں ہو گا۔ صرف فیصلہ کر لینے سے کام مکمل نہیں ہوتا۔ اصل کام فیصلے پر عمل ہے۔ عمل کے لیے جبرات اور ہمت کی ضرورت ہے جو آپ میں موجود ہے۔ آپ نے ابھی یہیں اسکے اپنا جائزہ نہیں لیا۔ آپ بہانوں اور بے معنی جواز کی آڑ میں چھپے بیٹھے ہیں۔ اٹھ کر سامنے آ جائیں اپنے آپ پر آپ نے جو خوف طاری کر رکھا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقائق کا سامنا کریں اور اپنی لغزشوں کو تسلیم کریں، لغزش جو ہو چکی ہے، اب آپ پچھتا نہیں پا پریشان ہوتے رہیں تو اس سے آپ کو نقصان ہو گا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہو گا۔ اب اس لغزش کے نتائج کا آپ کو سامنا ہے، ان سے نہ بھاگیں، ان کا علاج سوچیں اور کر کریں۔

شمع بک ایجننسی خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول 57

پوری زندگی کا احاطہ نہیں کرتی۔ ہمارے اندر کچھ کرنے کی امگ اٹھتی ہے تو یہ کہہ کر بیٹھ رہتے ہیں کہ کچھ کرنے کا زمانہ بیت گیا ہے۔ یہ احساس سراسر کم ہوتی اور کم علمی سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ ہر لمحے میں ایک عظیم کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کے حالات زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کا عمل بہت بعد میں شروع ہوا اور جس قدر دیرے شروع ہوا، اسی قدر اس میں تیزی اور توٹ پہنچاتی۔ کامیابی کے پھول عموماً زندگی کی ابتدائی بہاروں میں نہیں کھلتے۔

### پرشیان کن آغاز

نیون جس نے سائنسی دنیا کو ایک نئے نظریے سے روشناس کیا وہ چار برس کی عمر تک بول بھی نہیں سکتا تھا۔ سات سال کی عمر میں اس نے پہلا لفظ پڑھنا سیکھا۔ پکا سوائے پہنچنے میں کوئی برس تک الف بے سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اسے حروف تجھی یاد ہی نہ ہوتے تھے۔ کچانگ کے اسکول سے بھی اچھی رپورٹ موصول نہ ہوئی اس کے اساتذہ اس کے بارے میں بہت بری رائے رکھتے تھے اور اس کے مستقبل سے سخت مایوس تھے۔ قدرت جہاں اشخاص کو ذہانت کی بے پناہ صلاحیتوں سے فوازی ہے، وہاں یہی اہتمام کرتی ہے کہ ان صلاحیتوں کا وقت سے پہلے اظہار نہ ہو جائے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اشخاص غیر معمولی ذہین تھے اور انہیں اپنی ذہانت کا وقت سے پہلے احساس ہو گیا۔ جس کے نتیجے میں ان کی توازن میانہ روی اور ظہراً سے محروم ہو گئی اور پھر وقت سے پہلے بھڑک کر راکھ بن گئی۔

شمع بک ایجننسی خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول 56

مدت تک طعن و نفع کے تیر سہتارہا۔ اس کا بچپن اور جوانی کا خاصاً حصہ ناکامی اور گماہی کی دلدل میں گزارا۔ اور پھر ایک روز اس کا نام ششم کی طرح چک اٹھا اور اس نے موسيقار کی حیثیت سے دنیا کو عظیم سرمایہ عطا کیا۔ نعمتوں کے زیر و بم بھینٹے والے آج بھی یتھودوں سے والہان محبت کرتے ہیں۔ وہ مر پڑا ہے لیکن اس کی شہرت کو بقائے دوام ملی ہے۔

تاریخ میں ایسے واقعات کثرت سے ملے ہیں کہ جن لوگوں نے بے شک اکامیا بیان حاصل کیں اور مرنے کے بعد اپنے پیچھے کارہائے نمایاں کے لافائی نقش چھوڑ گئے، ان میں سے اکثر کندڑوں میں اور غبی سمجھے جاتے تھے۔ نیون سے کوئی واقعہ نہیں دے اپنی صدی کا حیرت انگریز بوجہ تھا اگر اس کی زندگی کا برا حصہ اس طرح اُرزا ہیے وہ کوئی برا کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ چچل طالب علمی کے زمانے میں ایک کھلنڈ راسالہ کا تھا۔ وہ پیچھے پیچھے تھا بلکہ اکثر کھرا رہتا کیونکہ اسے کوئی بھی سبق یاد نہ ہوتا تھا، مگر آپ جانتے ہیں کہ چچل نے انگلستان کی تاریخ میں کیا کردار ادا کیا اور ج تو یہ ہے کہ ایک زمانے میں پوری عالمی سیاست اس کے گرد گھومتی تھی۔ ڈیوک آف ڈبلن فوجی ہمارت میں ان بلند یوں تک پہنچا جس تک بہت کم لوگ پہنچ سکے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ بار بار کی ناکامیوں سے ننگ آ کر اس نے اتنی کو خیر باد کہہ دیا تھا۔

اسکاؤٹ کی تحریک جا آج دنیا بھر میں کام کر رہی ہے اور ہر تعلیم یافتہ شخص اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اسی تحریک کے باñی..... لاڑ دیڈن پاؤں کو کوئا لافی کی وجہ سے آکسفوڑ میں داخلہ نہیں ملا تھا۔ یہ واقعات اس حقیقت کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے کوئی خاص عمر متین نہیں۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہونہار برواء کے پکنے پکنے پات۔ یہ ضرب المثل بھی ایک حد تک صحیح ہے مگر وہ یہاری

## زیادہ عمر

یہ احساں کہ بڑھاپے کے قریب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ سے بے خبری کی علامت ہے۔ ”ایک اسکاؤنٹ کا بیچپن“ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں سے ایک ہے اس کتاب کی مصنفة ”میری“ نے یہ کتاب ۹۳ برس کی عمر میں لکھی۔ ایک اور خاتون جس کی نالگینی ایک حادثے میں ضائع ہو گئی تھیں اور وہ دو پیروں والی کری پر سفر کرتی تھی، اس نے بچوں پر اتنی عمدہ کتابیں لکھیں کہ آج تک ان کے پائے کتابیں سامنے نہیں آئیں۔

ایک اور شخص کی کہانی ایقان افروز ہے۔ وہ تیج کا مریض تھا اس کی زندگی بھی انک اور پر درد و اععقات سے پر تھی۔ اس نے اپنی آپ بنتی قم کی۔ یہ آپ بنتی اس قدر موثر اور اس کا پیر ریاستیان اس قدر اثر آفرین تھا کہ اس کتاب پر مصنف کو گرفتار وظیفہ دیا گیا۔ مصنف نے اس وظیفے کے سہارے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں سے ڈاکٹر بن کر نکلا۔

ایک صحت مند اور محنتی آدمی یا کائیک ایک موزی مرض میں بدلنا ہو گیا اور اس قابل نہ رہا کہ بستر ہی میں اٹھ کر بیٹھے کے۔ زندگی کا بڑا حصہ اسی عالم میں گزر۔ ایک روز سے لکھنے لکھانے کا خیال آیا اور اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ چند مہینوں میں اس کے ذریعے شہرت حاصل کر گئے اور اسے معقول آدمی ہونے لگی۔ اس نے بتایا اتنی آدمی اسے اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی جب وہ تندروست تھا۔

## نام موافق حالات

کامیابی کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے ہم اکثر نام موافق حالات سے خوف کھا جاتے ہیں، حالانکہ نام موافق حالات کی کامیابی کی راہ کو بند نہیں کرتے۔ بلکہ اکثر اوقات تو نشان منزل ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں کہ باہم لوگوں نے اپنی فطری خامیوں کے باوجود دنیا میں نام پیدا کیا۔ بدلتی یہ ہے کہ ہم ایسے واقعات سے باخبر رہنے کی کوشش نہیں کرتے۔

کپلنگ کا ذکر کراور آپ کا ہے۔ قدرت نے اسے کمزور بینائی عطا کی تھی۔ زندگی کے گھنے جنگلات میں کامیابی کی راہیں تلاش کرنے کے لیے اچھی بینائی کی سخت ضرورت ہے۔ مگر کپلنگ نے یہ سوچ کر قدم اٹھانے سے گریز نہیں کیا کہ میری بینائی کمزور ہے اور میں دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس نے بینائی کو بہتر بنانے کی کوششیں بھی جاری رکھیں اور بالآخر اس کی نظر درست ہو گئی اور اس نے اہل نظر کھر کرا ایک تیا سلوب دیا۔ ایک اور عظیم صاحب قلم کے بارے میں یہ شہادت موجود ہے کہ ابھی وہ نوجوان ہی تھا اور اس کی تحریروں نے اہل قلم کو متعجب کرنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ ایک بیماری میں بستلا ہو کر بینائی کو باوجود وہ نوجوان لکھتا رہا اور اس کا شاربہ ترین اہل قلم میں ہوتا ہے۔

جارج تھامس کی زندگی اور بھی ایسا زیادہ بھی انک تھیں جو گندے ماحول میں رہنے پر مجبور تھا اس پر قافی کا حلہ ہوا اور اس کی قوت گویا بینائی جاتی رہی وہ اپنے ہاتھ کے سامنے دُن لئکا کر لکھتا رہا اور پانچ برس میں تین عظیم الشان کتابیں تصنیف کیں۔

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

61

### شمع بک ایجنسی

بڑے سائنسدانوں، موجودوں اور نامور اہل علم نے اسی قوت کو استعمال کیا ہے اور یہی قوت ان کی کامیابی کی ضامن ہے۔ اس قوت کا نام تحت الشعور ہے۔ اس قوت کے باہرے میں شہرہ آفاق موجود ایئر یون کے تاثرات ملاحظہ کیجئے۔

جب میں نے یہ کام شروع کیا جبکہ برتنی اور مشینی سائنس کا کچھ بھی علم نہ تھا میں نے صرف ایک سال اسکول میں پڑھاتا اگر بلند درتہات میری رہنمائی نہ کرتی تو میں کچھ بھی نہ کر سکتا۔ یہ ہنسی فیضان اس وقت شروع ہوا جب میں پہاڑی علاقے میں ایک سنان مقام پر ٹیکری اف آپر ٹریکر۔ میں راتوں کو دریک پہاڑ پر بیٹھا رہتا۔ میں نے محبوس کیا کہ کہیں سے میرے ذہن میں پیغام آ رہے ہیں۔ ان پیغامات میں سست کا واضح تھیں موجود تھا۔“

ایڈریسن کو اس کے تحت الشعور کی طرف سے پیغام آ رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ پیغامات کو علمی صورت دے کر اس نے پوری دنیا کو در طریقہ حیرت میں ڈال دیا۔

### نئی قوت کا استعمال

اب سوال یہ ہے کہ اس نئی قوت سے رابطہ قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو اصحاب اس طریقہ کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں ان کے لیے کامیابی کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تحت الشعور سے باتیں کرنے کا سب سے موثر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیں رات کو سونے سے پہلے اس عمل کا آغاز کیجئے یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھیلا چھوڑ دیجئے۔ بستر پر اہمیتی آرام دہ پوزیشن میں لیٹ جائیے۔ اس کے بعد اپنے تصور میں ایک دیوار کھڑی کیجئے جس پر سیاہ پر دلک رہا ہو اس پر دے کی سیاہی کو زیادہ سے زیادہ محبوس کرنے کی کوشش کیجئے۔ جوئی آپ کو سیاہی کا احساس ہونے بلکہ سمجھ لیجئے تحت الشعور سے آپ کا رابطہ قائم ہو گیا۔ یہ عمل

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

60

### شمع بک ایجنسی

### تریتی پس منظر

اچھی تربیت خصیت کی نشوونما میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن اگر کسی شخص کو حالات کی خرابی کی وجہ سے اچھی تربیت میراث آئی ہو تو اسے بدلت ہو کر ماہی کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ برناڑا شاکی تربیت نوکروں نے کی۔ یہ نوکر اسے اکثر بڑی طرح پیٹنے تھے اور اس کے ساتھ براسلوک روکر کھتے تھے اس کے باوجود برناڑا شاکی زندگی کی بازی، ہماری نہیں، جیتی ہے۔ اس کے علاوہ عمر بھراں کی اپنی فریقہ حیات سے سکھنا رہی اور اس نے زندگی میں تینوں کے سوا اور کچھ نہ پایا۔ لیکن وہ قلم سے لاقانی نقش و نگار بناتا رہا۔

بنیمن کا خاندان اپنی پس منظر ہموار تھا۔ اس کی زندگی میں طوفان بلا خیز آتے رہے اور اس نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف پلکس پر اگریں مکمل کی۔ آپ نے دیکھ لیا کامیابی کی منزل کس قدر رونش اور واضح ہے اس کی طرف وہ لوگ بھی بڑھ کتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہے اور وہ بھی جو جسمانی اور ذہنی اعتبار سے کوئی کمی محوس کرتے ہیں اور وہ بھی جنہیں ہموار معاشرتی ماحول میں رہنیں آیا۔ آئیے، اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کامیابی حاصل کرنے کا سب سے بیقینی راستہ کون سا ہے۔

### ایک نئی قوت

ہمارے خیال میں معلومات اور سرگرمیوں کا سارا منع ہمارے حواس خسرہ ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک حس سے محروم ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس کی کی حلائی ممکن نہیں، مگر یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ہمارے پاس حواس خسرہ کے علاوہ ایک اور قوت موجود ہے جس کا ہمیں احساس نہیں۔ بڑے

برنارڈ بوج خوارکیکہ کامتوں ترین انسان ہے اور صدر امریکہ کا مشیر رہا ہے وہ سونے سے پہلے ہر رات کو اپنے پیچیدہ مسئلے تحت الشور کے آگے رکھ دیتا تھا اور صبح اٹھتے وقت اسے پیچیدہ مسائل کے صحیح جواب مل جاتے تھے۔ اس طبقے میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو مسئلہ آپ کے سامنے ہے، اس پر میں منٹ کے لیے صحیح پیچھے اور پھر اس مسئلے کو بھول جائیے اس کے بعد چوہیں اور ایٹا لیس گھنٹے بعد اس مسئلے پر پھر غور کیجئے، صحیح ترین حل آپ کے ذہن میں خود بخود آجائے گا۔

(۳)۔ تحت الشور کی یادداشت بڑی تیز اور حرمت انگیز ہے۔ تحت الشور کچھ نہیں بھولتا۔ آپ جس قدر الفاظاً بولتے اور لکھتے ہیں وہ سب کے سب تحت الشور میں مخنوظر ہتھیں ہیں۔ آپ جو پیچھی کی یاد کرنا چاہیں، آرام سے لیت جائیے اور ایک دو منٹ کے لیے یہاں پر دے کا تصور کیجئے، میں وہ بات یاد آجائے گی۔

(۴)۔ تحت الشور، ٹھیں پیچھی (اغراق) کے عجیب عجیب کرنے دکھاتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہو گا کہ آپ کے تصور میں ایک ایسی تصویر آئی جو آپ نے آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھی، لیکن اسے تصور میں دیکھتے ہی پیچان لیا۔ آنے والے دعاقات کی تصویر یعنی تحت الشور ابھارتا رہتا ہے آپ ان جھلکیوں کو فورے دیکھنی کوش کیجئے اور کافی نذر میں ہر وقت تیار رکھیے، جوئی غیر مرمنی پیغام یا خیال آئے اس نوٹ کر لیجئے۔

(۵)۔ تحت الشور میں وجدان کی کیفیتیں ابھرتی رہتی ہیں اور مستقبل صاف طور پر نظر آنے لگتا ہے۔ یہ روحاںی فیضان کبھی آسانی سے میسر آ جاتا ہے اور کبھی اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے یہ وجدان زندگی میں کامیابیوں کی کمی ہے۔

رات کو سونے سے پہلے اور صبح کو جاگتے ہی دھرا یے۔ دن میں بھی یہ عمل دھرا جاسکتا ہے۔ مکمل آرام، بیازوں، ناگلوں اور جسم کے ہر حصے کوڑھیلا چھوڑ دینا، تصور میں سیاہ پردے کی تصویر..... یہ عمل جس تدریخت سے انجام پائے گا، تحت الشور اسی نسبت سے آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا۔

### کامیابی کے پانچ طریقے

اس عمل کے ذریعے آپ تحت الشور سے پانچ بڑے بڑے فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور وہی وہ فوائد ہیں جن کی بدولت کامیابی کا راست بہت مختصر ہو جاتا ہے۔

(۱)۔ تحت الشور سے رابطہ قائم کرنے کا طریقہ سیکھ لینے کے بعد اپنی آرزوؤں خواہشوں اور منصوبوں کی فہرست تیار کر لیجئے۔ یہ فہرست واضح اور صحیح ہونی چاہیے۔ جب آپ آرام کے وقت تحت الشور سے تعلق قائم کر چکے ہوں تو اسی فہرست کو دوبار پارہ دھرا یے اور دھرانے کا عمل ہر روز جاری رکھیے۔ تحت الشور کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کن کن میدانوں میں کامیابی چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو مختلف طریقوں سے پیغامات بھیجا شروع کر دے گا اور آپ کو صحیح اقدامات سمجھائے گا یہ نہ سمجھ لیجئے کہ اس عمل کے شروع ہوتے ہی کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ آپ کو صبر و استقامت سے اپنا عمل جاری رکھنا ہو گا۔ کامیابی کی راہ میں جس قدر رکاوٹیں موجود ہیں، تحت الشور ان کی طرف واضح اشارہ کرے گا اور اس ساتھ ہی جسم میں اس قدر قوت پیدا ہو جائے گی کہ آپ ان دشواریوں پر قابو اسکیں۔

(۲)۔ تحت الشور آپ کے مسائل حل کرنے میں حرمت انگیز مدد دے گا۔ آپ اپنی پریشانیوں اور اپنے مسائل کے بارے میں بنیادی معلومات تحت الشور کو فراہم کر دیکھی وہ جلد ہی آپ کے ہر سوال کا صحیح ترین جواب دے گا۔

شمع بک ایجنسی  
دیکھتے ہیں کہ مغل میں بیٹھا ہوا بھی سب سے الگ تھلگ دکھائی دیتا ہے۔ وہ بات چیت میں حصہ نہیں لیتا۔ حالانکہ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ موضوع اس کا پسندیدہ موضوع ہے اور اس پر اس نے بہت کچھ پڑھ رکھا اور غور کیا ہوتا ہے۔ جتنے لوگ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے بہتر معلومات رکھتا ہے۔ اسے مغل میں شریک لوگ گفت و شنید کے لیے آمادہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ہوں ہاں کر کے ٹال دیا جاتا ہے۔ ان صاحب کا بھی یہی منصب ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں کھل کر بات کرتے ہوئے ایک طرح کی پچکاہت اور جھگجھ محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ماہرین انسیات نے جو توجیہات پیش کی ہیں وہ بہت بھی اور تفصیلی ہیں ان وجوہات کا فسیات تجزیہ بھی کیا گیا ہے۔

فرائیدین کتب کے ماہرین تو اس جھگجھ کو جس کے حوالے سے بھی سامنے ناتے ہیں تاہم وہ بھی یہ تعلیم کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو شر میلے اور دوسروں کی موجودگی میں گفتگو میں حصہ لینے میں پچکاہت محسوس کرتے ہیں۔ ان کے پیچپن میں ان کے سر پرست یا والدین ان کو ایسی جرمی تعلیم دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ساری عمر دوسروں سے گھل مل نہیں سکتے اور اجنبیوں یا مکام شناس ا لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے پچکاہت محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بزرگ اپنے گھرانے کے پیچوں کو طرح طرح کی فصیحتیں کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں جب بڑے بول رہے ہوں تو بات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ جب بڑے لوگ بیٹھے ہوں ادب سے سر جھکا کر بیٹھتے ہیں کسی طرح کی بد تیزی نہیں کرتے۔

بچے نے کسی معااملے میں کوئی مشورہ دیا تو اس کا مشورہ فی الفور یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ تم ابھی بچے ہو تمہیں عقل نہیں کہ تم ایسے معاملات میں مشورہ دو۔ حالانکہ بچا اپنی فحصیت کی بڑھتوں اور نشوونما چاہتا ہے وہ بڑوں کو غور سے دیکھتا اور ان کی طرح بننے

### سوق کا انداز بد لیے

انسان جو سوچتا ہے وہی کرتا ہے اس لیے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے اور کامیاب زندگی برقرار کرنے کے لیے ہر نسب انصاف ایعنی کا قیصہ کیجھے۔

محضہ ہر سوال کا جواب معلوم تھا لیکن اس وقت جواب دیتے ہوئے میراطق سوکھ ہی گیا۔ مشکل سے حل صاف کر کے آواز نکالی تو الفاظ بے ربط ہو گئے، اثر و یو یعنی والے سکرانے لگے تو میں اور زیادہ بوکھلا گیا۔ یار کچھ میں نہیں آتا کہ دوسرے آدمیوں کے سامنے بات چیت کرتے ہوئے زبان کیوں لڑکھڑائے لگتی ہے۔

یہ ایک طالب علم کا قصہ ہے جو ایک آسامی کے لیے اثر و یو دینے گیا اور اس اثر و یو کی رو داد اپنے ایک دوست کو سنارہاتا۔ اس کے دوست نے جو قصہ سنایا وہ قد رے مختلف تھا وہ کہنے لگا۔ محضہ سے جو سوال پوچھتے گئے ان کا جواب تو مجھے واجبی سا ہی آتا تھا لیکن میں نے ہر سوال کا جواب بے دھمک بڑے اعتمادی سے دیا اثر و یو یعنی والے مجھے سے متاثر دکھائی دیتے تھے۔ چند دنوں کے بعد جب اس اثر و یو کا نتیجہ سامنے آیا تو جس طالب علم کو ہر سوال کا بہتر اور مکمل جواب آتا تھا۔ اس کی بجائے دوسرے طالب علم کو اس آسامی کے لیے تخت کریا گیا جس کے جواب تو واجبی تھے لیکن اس نے بڑی خود اعتمادی سے اثر و یو دیا تھا۔

آخریاں کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص ذہن ہیں ہے اپنے کام پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس نے پوری محنت کی ہوتی ہے لیکن وہ ابھی لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے گھبراہت محسوس کرتا ہے۔ دوستوں اور احباب کی مغل میں ہم کسی ایسے فرد کو بھی

شمع بک ایجنسی 67 خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

ایک درسی حقیقت ہے جسے عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے اور جو خود اعتمادی کے نقدان کی وجہ فتنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ابتدائی ایسی تربیت دی جاتی ہے۔ زیادہ لوگوں سے ملنا اچھا نہیں، فلاں کتر درجے کا ہے اس سے کیوں ملتے ہو، فلاں گندہ ہے، فلاں کا باپ اچھا نہیں، فلاں یوں ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب کہ اس دنیا میں ہمیں ہر طرح کے انسانوں سے سابقہ پڑتا ہے انسان اکیلانہیں رہ سکتا۔ نہیں انسان جزیرہ ہوتا ہے۔ انسان کی روزمرہ کی زندگی ایسی ہے کہ جس میں اسے جہاں اپنے جانے پہچانے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہاں اسے اچنیوں اور ناشناسالوگوں سے بھی رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے یہ انسان کی مجبوری ہے۔ کوئی انسان کتنا محتاج اور اپنے آپ میں بند کیوں نہ ہو وہ بھی اور کسی صورت میں اپنے آپ کو اتنا پابند نہیں بنا سکتا کہ دوسروں سے بالکل ہی رابطہ توڑے۔

فرانس کا مشہور مصنف باڈیز متوسط طبقے کے لوگوں سے ہمیشہ نالاں اور نفور رہا اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی کہ ان لوگوں سے ان کا کوئی ربط و بظیث نہ ہو۔ وہ انہیں حریر سمجھتا تھا اور ان کے طرزِ زیست کو بھی بودا اور کتر خیال کرتا تھا، لیکن، ہوا کیا، آہستہ آہستہ سے اپنی آخری عمر میں یہ شعور اور احساس حاصل ہوا کہ اصل زندگی تو یہی لوگ بس کر رہے ہیں۔ جن سے وہ ساری عمر کی تھم کا تعلق قائم کرنے سے ہمارا تباہ۔ باڈیز جب اس شعور تک پہنچا تو دراصل جہاں وہ بنی نوع انسان کی رنگارنگی سے متاثر ہو رہا تھا وہاں وہ اجتماعی انسانی میں جوں کی قدر و قیمت سے بھی شناسا ہوا تھا۔ انسان ایک جانور ہے۔ یہ مقولہ بھی آپ نے بھی کچھی پڑھا اور سن ہو گا۔ جهد البقائی انسان کو جو چیزیں کامران و کامیاب بناتی ہیں ان میں سب سے اہم اور کلیدی چیز اس کی خود اعتمادی ہے۔ اگر انسان میں خود اعتمادی نہیں تو پھر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ذیل کا رتیگی نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جو بے حد شرم میلا تھا۔ وہ ایک

شمع بک ایجنسی

66

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بڑوں کی عادات اور اشغال میں سے بہت سی باتوں کو رکرتا اور بہت سی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے مطابق وہ اپنے ذہن کے مطابق ان معاملات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ جو سائل خود اس کے ہوں یا اس کے گھر سے تعلق رکھتے ہوں۔ وہ اپنی دوپھی کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہے لیکن والدین بچوں سے ان فطری جذبات پر بھاری پھر کی طرح کا حکم رکھ کر ان فطری جذبات کو دبادیتے ہیں۔

تجھی یہ لفظ ہے کہ پچے کے دل میں یہ احساس جاگزیں ہوتے ہیں کہ وہ مکر ہے بعض بچوں کا رد عمل اس سے قطعی مختلف ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے بزرگوں اور بڑوں کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے جس کے تینجی میں وہ ساری عمر بزرگ نسل کے خلاف جدوجہد کرتا اور یوں جزیش گیپ پیدا ہوتا ہے کہ باہمی افہام و تفہیم اور ربط سارے رشتے اور دلیلے ثوث جاتے ہیں۔ اگر بچپن میں بچوں کی جو صد افراد کی جائے ان کی بات کو غور سے سنا جائے اور ان کی اپنی باتوں کو سراہا جائے اور جہاں وہ معاملے میں غلط ہوں۔ اس کے بارے میں ان کوئی اور خوشی سے سمجھایا جائے تو پچے کے سامنے کسی طرح کی پہنچا ہٹ یا شرم کو محبوس نہیں کرتے۔

ہمارے والدین سرپرست محلم اور استاد ایک حقیقت کو فرماؤش کر دیتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بینادی حیثیت رکھتی ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ کامیاب زندگی برکرنے کے لیے انسان میں خود اعتمادی کا ہونا لازمی اور ناگزیر ہوتا ہے۔ انسانی زندگی انہوں نے واقعات اور حادثات کا مجموعہ ہے۔ قدم قدم پر انسان کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس کے لیے اس میں اگر اپنی باطنی اور خصی تو انہی نہ ہو تو وہ چند

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

69

### شمع بک ایجننسی

بیدا ہوئی اور وہ بعد میں امریکہ کا ایک نامور کہانی نگار بنا۔ خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے انسان اپنی محنت سے بھی زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اپنے علم اور جریبے کا صحیح طرح سے اظہار نہیں کر سکتا۔ خود اعتمادی کے نقدان کی وجہ سے انسان میں احساس کتری پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بعض خدشوں میں بتلا ہو جاتا ہے۔ بلاوجہ خوف کا شکار رہتا ہے۔ بچپن میں والدین اور سرپرستوں کے غلط روایے کا ذکر ہو چکا ہے اس کی وجہ سے ہی بڑے ہو کر لوگ دوسرا لوگوں کے سامنے اپنی ذات کا بھرپور انداز میں اظہار نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بھی بعض ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ دبے رہتے ہیں۔

بعض لوگ اس وجہ سے دوسرا لوگوں سے گھل مل نہیں سکتے کہ انہیں یہ خیال ستاتا رہتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں، ان کی شخصیت موثر نہیں، ان کا قدر لسایا چھوٹا ہے، ان کی ناک بھلی ہوئی ہے یا بدوضع ہے۔ اس طرح بعض لوگ بعض معماشی مجبور یوں کی وجہ سے بھی لوگوں سے بات کرتے ہوئے کرتاتے ہیں۔ ان پر یہ خوف اور احساس ہمیشہ سلط رہتا ہے کہ وہ خوشحال نہیں۔ ان کی مالی حالت کتر ہے۔ ان کی جیب میں پیسے نہیں۔ ان کا لباس اچھا نہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کا خوش پوش، جاذب نظر مخاطب ان کو حقیر بسمجھ کر کوئی ایسی بات کہہ دے جو سب کے سامنے دلت کا باعث بن جائے، اس لیے کیوں نہ لوگوں سے کم لجاجے اور اگر ملا بھی جائے تو پھر خاموش سامع کی حیثیت اختیار کر لی جائے۔

یوں اپنی معماشی الجھنوں اور معماشی الجھاؤ کی وجہ سے یہ لوگ اپنی فطری صلاحیتوں کو خود ہی غیر موثر اور غیر کارآمد بنادیتے ہیں۔ ایک خاص نفیاتی "بیماری" یہ بھی ہے کہ کم درسوں کے بارے میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اس سے میں گے تو وہ ہمیں کیا کہے گا؟ اس کا رویہ کیسا ہو گا؟ جب کہ ثابت موجود یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ہمیں دوسرا سے کیا کہنا ہے اور کس طرح اسے متاثر کرنا

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

68

شمع بک ایجننسی  
بالصلاحیت لکھنے والا تھا۔ اس نے بہت پڑھا تھا اور بڑی محنت سے لکھتا تھا لیکن اس نے جو کچھ لکھا تھا وہ کسی کو دکھاتا اور پڑھاتا نہیں تھا۔ اسی کوئی کہانی کسی رسائل کو شائع کرنے کے لیے بھیجننا چاہتا تھا۔ اسے دوسرے آدمیوں سے بات کرتے ہوئے بھیج اور اپنچاہت محسوس ہوتی۔ وہ بار بار اپنی لکھنی ہوئی کہانیوں کو پڑھتا اور انہیں مزید بہتر بناتا رہتا۔ کسی بار اس کا جی چاہا کہ وہ اپنے بعض ملنے والوں سے اپنی کہانیوں کا ذکر کرے، لیکن ہر بار اس کی زبان کو تالا لگ جاتا۔ کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے ایک دن وہ اپنے شہر کے ایک رسالے کے دفتر پہنچا۔

سارا راستہ وہ یہ پوچھا گیا کہ وہ خود ایمیٹر کو اپنی کہانی دے گا یعنی جب وہ دفتر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ ایمیٹر اپنے کرے میں موجود ہے اور وہ اس سے مل سکتا ہے، لیکن اس کی ہمت جواب دے گئی مختلف طرح کے اندر یہ اس کے دل میں جنم لینے لگے۔ اس نے ایمیٹر کے کلک کو کہانی دیتے ہوئے کہ وہ یہ کہانی ایمیٹر کو پہنچا دے۔ کلک جر جان ہوا در بولا۔ "مسٹر آپ اپنی کہانی خود ایمیٹر صاحب کو دے دیں وہ اس وقت تشریف رکھتے ہیں۔" لیکن وہ جوان کہانی کا کلک کو ہی کہانی تھا کہ جلا گیا۔ چند دنوں کے بعد اسے ایمیٹر کا خط ملакر وہ اسے دفتر میں آ کر ملے۔

اب پھر خود اعتمادی اور قوت ارادی میں کمی اس کے آڑے آئی۔ وہ سوچتا رہا کہ ایمیٹر مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے وہ مجھے کیا کہے گا۔ اس کے دل میں کیا ہے؟ کیا اسے میری کہانی پسند نہیں آئی۔ کئی دن اس نے اسی لیست دل میں گزار دیئے۔ ایک دن وہ کرتا ہوئے اسے شدید یوکھا ہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایمیٹر سے بات اور اپنا تعارف کمزوری کو بھانپ گیا اور اس کی کہانی کی تعریف کی۔ اس کی صلاحیتوں کو سراہا۔ پھر ایمیٹر اس سے بلوایت۔ اس سے باشی کرتا۔ یوں اس جوان میں خود اعتمادی

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

71

### شمع بک ایجننسی

یاد رکھیے کہ انسان کامیاب زندگی اسی صورت میں برسر کر سکتا ہے جب اس کے سامنے کوئی برا مقصود اور نصب اعین ہو۔ یہ مقصود اور نصب اعین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوادیں گا اور اس کی تربیت میں کوئی کمی نہ اٹھا کر گوں گا۔ یہ مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک پر سکون زندگی برسر کروں گا۔ یہ مقصود ہمیشہ اپنی صحت برقرار رکھنے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اگر مقصود اور نصب اعین نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی بڑی جدوجہد اور عمل سے خالی رہتی ہے اور جتنا برا مقصود ہو اس کے لیے انسان اپنے اندر رزیادہ سے زیادہ خود اعتمادی اور قوت ارادی پیدا کرتا ہے۔ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے اپنی سوچ بدیں۔ اپنی زندگی کے لیے کسی مقصود اور نصب اعین کا تعین کریں!

### اچھی شخصیت کا تاثر

ممکن ہے آپ کے اندر ایک خوبصورت اور دلچسپ شخصیت چپھی ہوئی ہو لیکن جب تک آپ شخصیت کو نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی یہ خصوصیت لوگوں کی نظرؤں سے اوچھل رہے گی۔ اس لیے آپ اس خصوصیت کو پر پڑہ راز سے باہر نانے کے لیے تیزی سے کام کئیجیے اور ہر وقت موقع کی تلاش میں ریسے، اس کے بعد جب آپ اپنی خصوصیت کو جاگیر کریں گے اس کے بعد ہی آئے گا کہ آپ کا پہلا تاثر، پہلا نقش بہتر ہو، اس لیے کیوں نہ آپ پہلا تاثر ہی اچھا چھوڑیں؟۔ اچھا تاثر پیدا کرنے کے لیے آپ کو کسی مقنای طیبی طاقت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا تعلق شعور اور سلیقے سے ہے کہ آپ کس طرح اچھی یا نئے شخص سے ملتے ہیں۔ یہ شعور اور سلیقہ اتنا عام ہے کہ عام آدمی بھی اسے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا سادہ انداز یہ

### شمع بک ایجننسی

70

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول  
ہے۔ اپنی شخصیت کا بھرپور اور ثابت انداز میں کس طرح سے اظہار کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جس طرح سوچتا ہے۔ وہ اسی طرح کا بن جاتا ہے اگر سوچ صحت مند ہو تو پھر انسان کا دبادبہ اور ذہن بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر سوچ ہمیشہ غلط ہو تو پھر اس کے اثرات بھی غلط ہوں گے۔

اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں کامیاب ترین زندگی برسر کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ میں جو بنیادی تبدیلی کرنی ہوگی اور اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہو گا۔ اپنے آپ کو فعال اور کارکردہ بنانا ہو گا۔ دنیا میں کامیاب بنانے کے لیے سوچ میں انقلاب لانا ہو گا۔ دل سے یہ احساس کالانا ہو گا کہ میں بدوض ہوں یا میں معاشری طور پر درسوں سے کتر ہوں۔ میری تعلیم کم ہے۔ میرے خاندانی حالات بہتر نہیں۔ اس کے بر عکس یہ سوچ اپنانی ہو گی کہ میں اسی خدا کا پیدا کیا ہو انسان ہوں جو تمام انسانوں کا خالق ہے اور میرے خالق نے مجھے ہر طرح کی ملا جیتوں سے نوازا ہے۔ میں کسی چیز میں بھی وہی اعتبار سے کسی سے کم نہیں، میں ہر شخص کے ساتھ برابری کی سطح پر مل سکتا ہوں۔

میں ہر اس موضوع پر گفتگو کر سکتا ہوں جس کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہیں اور جن موضوعات کے بارے میں میری معلومات ناقص ہیں۔ ان موضوعات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں گا میں پڑھوں گا۔ میں مختلف ذرائع اور سائل سے مشاہدے کے حوالے سے تجویزات کروں گا۔ میں ایک کامیاب زندگی گزاروں گا۔ اپنے فرائض انجام دوں گا۔ اپنے حقوق کی گلہداشت کروں گا۔ جب انسان اپنی سوچ کا رخ بدے گا۔ جب وہ غلطی سوچ کا بھلی اور غیر مددداری اور مختلف تفاسیاتی ابھننوں کے جال سے نکلے گا تو پھر اس کے سامنے خود بکوڈ زندگی کا اکیسا بسراست نکل آئے گا جو اس کی زندگی کو ہٹکنے سے بچائے گا۔

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

73

### شمع بلک ایجنسی

کوئی نہ تھی ملے، ماتھ پر تیور بیاں چڑھاتے اور سر کو حرکت دیتے رہتے ہیں۔ آپ نے انہیں اکثر ان حركات پر ٹوکا بھی ہوگا۔ لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھے اور آپ کو یہ بالگنا تھا، اس لیے آپ نے ان سے ملنائی چھوڑ دیا دراصل بھی وہ لوگ ہیں جو اپنی اس عامیانہ اور احتمالی غلطی یا خامی کی بناء پر اچھے اچھے دستوں کو بھی بور کر دیتے ہیں اور وہ ان سے کمی کرنے لگتے ہیں۔

گھری طبیعت اور خاموش طبع لوگ بھی آفت ہیں۔ اچھا تاثر اور خوبصورت نقش چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ گفتگو آپ کی طبیعت اور خیالات کی آئینہ دار ہو۔ اس کے ساتھ اگر آپ دوسرے کے خیالات و جذبات کے اظہار پر اپنے عمل کو چھرے کے اتار پڑھاوا اور تاثرات سے ظاہر کر سکیں تو نہایت بہتر ہوگا۔ دوسری چیز جو اس نقش اول، میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے، آپ کی گفتگو اور اس کا انداز ہے۔

ایک پرانی کہاوت ہے۔ قدرت نے انسان کو ایک زبان اور کان اس لیے دیئے ہیں کہ وہ بھتیا بولتا ہے اس سے دگنا سے۔ لیکن غضب یہ ہے کہ بعض لوگ اس بات کا بھی احساس نہیں کرتے۔ وہ اچھا تاثر دینے کی احتقان نہ کوش میں بہت زیادہ بولتے ہیں اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ گفتگو کا مقصود تادله خیالات ہیں۔ ایسے لوگوں سے ایک سرجنٹ کے بعد دوسری دفعہ ملنے کی کوش نہیں کی جاتی۔

ان باتوں نے لوگوں میں دوسری قسم ایسے لوگوں کی ہے جو خود کو نہایت باذق اور بذلہ نجٹ ثابت کرنے کی کوش کرتے ہیں ان کے پاس لطیفوں کا غیر محمد و دخیرہ ہوتا ہے۔ وہ جب کسی سے متعارف ہوتے ہیں تو اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مزاجیہ بات دوآدمیوں کے درمیان سکوت کو تواریخے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جب کہ لطیفوں کے نہ تھم ہونے والی یو پھٹاڑہ ان پر بوجھن جاتی ہے۔ اگر بذلہ نجٹ یا خوش طبع آدمی دوسروں کو نہیں کرنے کے بجائے خود ہی مکار دے تو یہ نہ صرف بہتر

### شمع بلک ایجنسی

72

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

ہے کہ کمی طبیعت میں کرنٹ اور عادات میں بھی پیدا نہ کریں۔ دوسروں سے ملاقات کے دوران عامیانہ پن دکھانے کے بجائے پرسکون، خوش اخلاق اور پر وقار نظر آئیے۔ پہلے دوسرے کو کھل جانے کا موقع دیجئے۔ کسی بات پر زیادہ زور دینا بھی نہیں بلکہ جتنا درست امنا سب سمجھے اسی پر اکتفا کیجئے۔

اچھا تاثر پیدا کرنے کے لیے یا کسی کے ذمہ پر اچھے اثرات مرتب کرنے کے لیے آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ صرف اتنا ہی کہ آپ اپنے انداز میں ایک خاص قسم کا رکھ رکھا جائیدا کریں۔ جو آپ کو دوسروں میں باقدار اور دل کش ہوادے۔ یہ انداز مختلف ہو سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں تو ممکن ہے آپ پہلی انی ملاقات میں دوسرے کو متاثر کر لیں۔

اوچھرے کے تاثرات کا خیال رکھیں کیونکہ آپ کا چھرہ آپ کے دل و دماغ کی تصویر ہے۔ اس میں بھی نہیں کہ اچھا اور عدمہ بل اس بھی شخصیت میں دل کش پیدا کرتا ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز چھرے کے تاثرات ہیں۔ بعض لوگ ہمیشہ اس اور پڑ مردہ نظر آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یوگ اپنی زندگی سے خلاجیں۔ اس کے باوجود انہیں مگر بہت ہوئے کہ ان کے دوست نہیں ہیں، یاد رکھیے اگر ہمیشہ چھرے سے ہشاش بیاش نظر آئیے۔

ان اداس اور زرد چھرے والے لوگوں سے بذریح حالات ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے نزد یہ چھرے کی زیادہ حرکت اچھی شخصیت کا اہم جزو اور پہلے تاثر کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ لوگ جب بھی کسی ابھی سے ملتے ہیں ان کا چھرہ اور چھرے کے اعضا غیر ضروری طور پر حرکت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو بارہا ایسے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا ہوگا جو آپ سے گفتگو کے دوران بار بار آنکھیں جھپکاتے، ہونٹوں

شمع بک ایجننسی

75

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

انہا پسندوں کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو کسی چیز کو اس وقت تک قول نہیں کرتے جب تک وہ ان کے تصورات اور توقعات پر پوری نہ اترے۔ ان کا اپنے نظر نظر کیوضاحت کا انداز بھی سب سے جدا ہوتا ہے جس میں کسی حد تک تکبر و خوت کو بھی دخل ہوتا ہے۔ موسم خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہوایے لوگ پھر بھی اس کے شکار ہوں گے۔ ان کے زدیک بہترین خصیت کے لیے ضروری ہے، اس لیے کوئی شخص زیادہ خوش پوش نہ ہو تو یہ اس پر تبصرہ کرنے والوں کی صفت اول میں شامل ہوں گے۔ ان کا معیار کچھ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ ادنی سے ادنی فروز اشتوں اور خامیوں پر بھی کسی کو معاف نہیں کرتے اور اپنی عیب جو یادِ عادت کی بناء پر دوسروں کو بہت جلد ناراض کر دیتے ہیں۔

انہا پسندوں کی دوسری قسم ان تجھ نظر مددوں اور عورتوں پر مشتمل ہے جو احساسِ مکتری کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کا نظر نظر نہایت اسکارانہ اور احساسِ مکتری لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک اچھے سمجھے ہوئے انسان کے بر عکس جو بھی کبھار خود کو کم تر محسوس کرتا ہے، یوگ کو بھیشدہ احساسِ مکتری کا شکار رہتے ہیں۔ ان کا انداز عاجزانہ اور معدودت خواہانہ ہوتا ہے۔ وہ خود اپنی غلطیوں کی ثناں ہی کرتے ہیں اور اپنے متعلق حقارت آئیزرمیارکس پاں کرتے ہیں۔ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس طرح کہ اس میں کسی جذبے یا احساس کا دخل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے بڑے سے بڑے کام کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں یا انہیں بھول جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ نہ جذبائی انداز میں انہا پسند ہیئے اور نہ اتنے مکمل المراج کہ دوسروں کا آپ پر ہٹسی آئے۔ ذاتی تعلقات بڑھانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کا پہلا تاثر اچھا اور قوی ہو۔ اگر آپ خود پسند کریں گے اور جان لیں گے کہ آپ کیا ہیں اور دوسروں سے ملتے وقت اس بات کو خود رکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ دوسرے آپ سے متاثر نہ ہوں۔ اس

شمع بک ایجننسی

74

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

ہے بلکہ اس سے اس کی خصیت کی دل کشی ابھر آتی ہے۔

ان باتوں نوں میں سب سے گراہ وہ ہوتے ہیں جو بات بات پر اپنی علیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کانچ یا یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اس لیے وہ کیوں نہ لوگوں کو یہ بتائیں؟ کیسے لوگ اگر بڑے اور مشکل الفاظ جانتے ہوں گے تو کبھی ان کی جگہ آسان اور عام فہم الفاظ استعمال نہ کریں گے کیونکہ ایسا کرنا ان کی علمی شان کے خلاف ہے۔

وہ ہمیشہ غیر زبانوں کی کہاوتیں اور حوالے پیش کریں گے تاکہ آپ پر ان کی علمی قابلیت کا عرب بیٹھے سکے۔ ہمیشہ دوسروں کے تلفظ کی غلطیاں نکالیں گے۔ دراصل ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھے جاتی ہے کہ قابلیت کی نمائش باعثِ عزاداری ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح نہ صرف وہ باتوں کیہلاتے اور غیرِ لچپ خصیت بن جاتے ہیں بلکہ لوگ ان سے نفرت اور خصومت برتنے لگتے ہیں۔ اگر آپ بھلی ہی ملاقات میں دوسرے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو گفتگو میں سادہ اور دل کش ریسے اور وہ بات کچھ جس سے دوسرے کو بھی دلچسپی ہو۔

ایک اہم خصوصیت جو بھلی ہی ملاقات میں دوسرے کو متاثر کر سکتی ہے۔ آپ کا جذبائی انداز ہے۔ یہ ایک سلسلہ حقیقت ہے کہ کسی شخص کا رنگ ڈھنگ اور معاشرتی میں مlap کا طریقہ اس کے اندر وہی احساسات کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا اندازِ لفکر متوازن اور سماجی میں مlap میں آپ کا روپ یہ ناریل ہو۔ دوسروں سے ملاقات کے وقت بالخصوص اس بات کو بخوبی رکھیے کہ کوئی چیز اپنی ذات میں مکمل نہیں، اندازِ لفکر میں انہا پسندی تو اس وقت مناسب ہو سکتی ہے جب اس کائنات کی ہر شے اپنی جگہ کامل ہوتی، لیکن جب تمام کائنات کا مداری خوب سے خوب تر کی جگہ پر ہو، آپ کا انہا پسند رویہ یا انہا پسندی کا مطالبہ قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا۔

### شمع بک ایجنسی

77 خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول  
کردار ادا کرتے ہیں، وہ ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یعنی خارجی کردار شخصیت کا ظاہری پہلو یا ناقاب ہے جس کا دراک دوسرا ہے لوگ کرتے ہیں، گویا شخصیت ان خارجی افعال کردار کا نام ہے جو ہم عام زندگی میں اپناتے ہیں۔  
لفظ شخصیت کی مفہوم کا حامل ہے یہی وجہ ہے کہ ۱۹۳۷ء میں آپورٹ نے لفظ شخصیت کی طبیعت تعریف کیا اور اس نے اس لفظ کی پہچان تعریف پیش کیں۔ شخصیت کی مانیت کو سمجھنا اور اس کی تعریف کرنا اس لیے مشکل ہے کہ شخصیت فرد کی پوری زندگی پر بحیط ہوتی ہے۔ لفظ شخصیت کا مفہوم زیادہ گہرائی اور گہرائی میں لایا جاتا ہے۔ ظاہری اعمال اور باطنی کیفیات کے مجموعہ کو شخصیت کا نام دیا جاتا ہے۔ افرادی اختلافات کو شخصیت کا لازمی جزو قرار دیا جاتا ہے۔  
درامل شخصیت داخلی اور خارجی پہلو کا حصہ انتراج ہے اور شخصیت کے ان

پہلوؤں کو بروئے کارلاتے ہوئے کوئی فرد اپنی ذات کی شناخت کرتا ہے یا دوسروں سے کرواتا ہے۔ کرداریت کے مانے والے شخصیت کے خارجی پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں جب کہ تخلیق شخصیت کے ماہرین داخلی پہلو کو سامنے رکھتے ہیں۔ اگر ہم مندرجہ بالا دو مفہوم (داخلی۔ خارجی) پر اکتفا کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شخصی جسمانی اور ذہنی خصائص کی وحدت کا نام ہے۔ جسمانی خصائص میں استخوانی ڈھانچہ، تحکم و شباہت، تندرسی، تووانی، جسم کی ساخت، پہلوں کی بنادوت اور حرکات غیرہ شامل ہیں۔ ذہنی صفات میں میلانات، روحانیات، عادات، یہیات جذبات غرض تمام ہیں۔ افعال شامل ہیں۔ ان میں اکتسابی اور غیر اکتسابی دونوں طرح کے اعمال شامل ہیں۔

دنیا کے تمام افراد کی حد تک باہم مماثل ہیں، یعنی سب کی دوناں گلیں، دو ہاتھ، دو آنکھیں، ایک سر، ایک منہ، ایک ناک اور دو گان ہیں۔ لیکن جب ماننے والے شخصیت کی بات کرتے ہیں تو وہ مماثلت کی بجائے اختلافات پر نظر رکھتے ہیں اگر

کے علاوہ آپ ان باتوں کا خاص خیال رکھیے۔

۱۔ کسی نئے ملنے والے کے متعلق غلط اندازہ مت لگائیے اور نہ ہی کتر سمجھو جیے۔

۲۔ دوسروں کی ساعت و بصارت کو آپ بھلے معلوم دیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے چہرے اور آواز پر قابو رکھیں۔

۳۔ آپ کا انداز دستانہ ہے۔ یہ بات ذہن نیشن کر لیجئے کہ دوسرے بھی پسند کیے جانے اور اچھا تر دینے کے آرزو مند ہیں۔

۴۔ اگر دوسروں سے بات کرنے میں آپ کو پہل کرنی پڑے تو ان کی روپی کی بات کیجئے۔

۵۔ اپنی یہیوں اور دوسروں کی رائیوں کو قلمی شاچھائیے۔

۶۔ مختلف قسم کے لوگوں سے ملتے رہیے۔ اس سے زندگی کے متعلق آپ کے تجربات میں دعست پیدا ہوگی۔

۷۔ ہمیشہ پر اعتماد رکھیے کہ دوسرے آپ سے مل کر خوش ہوتے ہیں۔

۸۔ دوسروں سے ملتے وقت مکرائے کیونکہ ایک بھرپور اور خلوص مکراہٹ کا اثر لطفیوں کے غیر محدود ذخیرے سے زیادہ ہے۔

۹۔ ان لوگوں کے نام ذہن نیشن کر لیجئے جن پر مل کر آپ خوش ہوتے اور ان سے جدا ہوتے وقت یہ خیال رکھیے کہ آپ ان سے دوبارہ ضرور ملیں گے۔

### شخصیت کی تعریف

پہلی سی جس کے لیے اردو میں شخصیت کا لفظ مردوج ہے۔ لاطینی زبان کے لفظ پر سوتا سے مشق ہے جس کے متین ناقاب کے ہیں۔ شخصیت کے اس مفہوم سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شخصیت وہ ہے جو دوسروں کو نظر آئے۔ عام زندگی میں ہم جس قسم کا

خود اعتمادی بڑھانے کی 12 اصول

79

### شمع بک ایجننسی

- ۵۔ اگر ہم شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھیں تو ہم شخصیت کی تعریف ان الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔
  - ۱۔ شخصیت ایک وحدت کا نام ہے، جس میں مثال اور متصاد صفات شامل ہوتی ہیں۔
  - ۲۔ شخصیت جامد و ساکن نہیں بلکہ زندہ اور فعال ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک اس میں کمی و بیشی رہتی ہے۔
  - ۳۔ شخصیت کا اندازہ لگاتے وقت ان خصائص پر نظر ہوتی ہے جو کسی شخص کی زندگی میں امتیازی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں، یہ خصائص معاشرتی ماحول میں اجاگر ہوتے ہیں۔
  - ۴۔ شخصیت فردی ڈاٹ سے وابستہ ہوتی ہے، تغیر و تبدل کے ساتھ ساتھ اس میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے۔
  - ۵۔ شخصیت کے امتیازی خصائص جان لینے کے بعد ہم کسی شخص کے متعلق پیش کوئی کرتے ہیں یہ پیش گوئی ہماری اوقاعات پر منی ہوتی ہے۔
  - ۶۔ شخصیت و راحت اور ماحول کے ادغام سے جنم لیتی ہے۔ شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد اگر ہم مختلف ماہرین انسیات کی تعریفوں کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔
  - ۷۔ انسن کے نزدیک شخصیت ہمارے نظام عادات کا نتیجہ ہے جس کا مطالعہ کردار کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔
  - ۸۔ آپورٹ کے نزدیک شخصیت فرد کی عادات و اطوار اور اوصاف کا وہ نمونہ ہے جو ماحول سے مطابقت کا قہیں کرتا ہے۔
  - ۹۔ وڈو رجھ کے نزدیک شخصیت ہمارے اوصاف کی کلی ٹیکم ہے، وہ اسے کردار کی خصوصی صفت بھی کہتا ہے۔

### شمع بک ایجننسی

78

خود اعتمادی بڑھانے کی 12 اصول

- بور جائزہ لیا جائے تو دنیا کے تمام افراد کی جسمانی اور روحی میالات میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں اور اس اصول کی بنیاد پر کوئی ایک شخصیت کی دوسری شخصیت سے میز دھماکہ شہری ہے۔ اختلافات کے حوالے سے ماہرین نفیات یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہبھاؤں میں فرق کیوں ہے؟ رجحانات میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے۔ فکر اور جذبات میں بمقامی کیوں ہے؟ شخصیت کی اس تعریف میں چار امور پہنچاں ہیں۔
  - ۱۔ انسان عالم حیوانات سے منفرد حیثیت کا مالک ہے یعنی انسان طبعی ماحول پر زیادہ انحراف نہیں کرتا۔ اس کے ذہن کا مطالعہ زیادہ ضروری ہے۔ وہ سوچ زبان اور ابلاغ کے اعتبار سے دوسرے انواع سے قطعاً مختلف ہے۔
  - ۲۔ انسانی طرز عمل پیچیدہ ہے یعنی انسان کی شخصیت طے کرتے وقت اس کے طرز عمل کی گہرائی اور وسعت پر رنگا رنگی ہوگی۔ بعض اوقات کسی ایک انسانی کام کے کئی حرکات اور مغایث ہو سکتے ہیں۔
  - ۳۔ انسانی طرز عمل ضروری نہیں درحقیقت وہ ہو جو بظاہر نظر آتا ہے یعنی انسان کے طرز عمل اور اس کے پس پرده اسیاب کا رشتہ طے شدہ نہیں ہے۔ ایک خاص طرز عمل کی مختلف اوقات میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں یا ایک خاص طرز عمل مختلف لوگ مختلف وجوہات کے تحت اختیار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ شخصیت طے کرتے وقت صورتحال کا مطالعہ ضروری ہے۔
  - ۴۔ انسانی طرز عمل کو طے کرنے والے امور و معاملات ضروری نہیں، ہمارے بس میں ہوں یا ہمیں ان کی آگاہی ہو۔ بعض اوقات افراد اپنے طرز عمل کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ بعض حالتوں میں جو طرز عمل اختیار کرتے ہیں، شعوری نہیں ہوتا لاشعوری ہوتا ہے اور وہ اپنے برداڑ کا تجربہ پیش کرنے سے قادر ہتے ہیں۔

خود اعتمادی بڑھانے کے 12 اصول

80

شمع بک ایجننسی

- ۳۔ فرائیٹ کے نزدیک شخصیت کی بنیاد جس اور لاشور کی پیداوار ہے۔
- ۴۔ سور و گن کے خیال میں شخصیت معاشرہ اور ثقافت کی پیداوار ہے۔
- ۵۔ شخصیت کو ہم نے ابتدائی جسمانی، داخلی اور خارجی صفات کا نام دیا تھا۔ جسمانی صفات میں شکل و شابہت جسم کی ساخت، بحث، انداز گفتگو، چلن پھرنا، جسمانی حرکات اور عضویاتی خصائص آجاتے ہیں۔ داخلی صفات میں ہمارے افکار، میلانات، محركات، یہجانات، جذبات، اقدار، فلسفہ حیات، آرزوئیں، تمنا میں وغیرہ شامل ہیں۔

خارجی صفات میں داخلی صفات کا اظہار عملی صورت میں دیکھا جاتا ہے۔ ہمارا سماجی روایہ لوگوں سے تفاضل اور گروہ شامل ہیں۔

شخصیت صرف افرادی تقاضوں کو ہی پورا نہیں کرتی بلکہ معاشرتی تقاضوں کو بھی پورا کرتی ہے۔ اس لیے ماحول بے مطابقت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ عدم مطابقت کی صورت میں کچھ ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں اور کچھ ماحول کو بدلتے ہماری طبقی، ذہنی اور سماجی صفات کی وہ منفرد اور یکتا تنظیم ہے جو ہمیں افرادی اور اجتماعی سائل کو سمجھنے اور سلیمانی میں مدد دیتی ہے۔

کہی وجہ ہے کہ تقاضات افراد کو عام انداز سے دیکھنے کے بجائے ان کے افرادی کردار کے احوال و کوائف پر زیادہ لیندن رہتی ہے۔ افرادی کردار کا انداز شخصیت کی وراثت سے گہرا اور مریبوط ہوتا ہے۔ جس کا باہرین بشریات اور نسبیات بر سہا برس سے مطالعہ کر رہے ہیں۔

